

مشہور تابعی حضرت مالک بن دینا علیہ الرحمہ کے ارشادات و اقتات کا روح پر و مجموع

ماؤن ٹھے حکمت پھوٹ

کالیف

مولانا محمد افروز وفاتی درمنی چرتناکونی

دیوبندی بیرونی، کتب ماؤن، سادقہ افراحت

لعمانی مکتوب

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ أَئُّهَا السَّبِّيْلُ الْأَمِّيْلُ

تفصیلات

کتاب : بولوں سے حکمت پھوٹے

تألیف : ابو رفقة محمد افروز قادری چریا کوٹی.....

پروفیسر: دلاص یونیورسٹی، کیپ ٹاؤن، ساؤ تھا فریقہ

پرنسپل: جامعۃ المصطفیٰ، کیپ ٹاؤن، ساؤ تھا فریقہ

afrozqadri@gmail.com

تصویب : علامہ محمد عبدالحیم بن نعمانی قادری - مظلہ النورانی -

نظر ثانی : ذاکر رضا گل ہاشمی - کیپ ٹاؤن، ساؤ تھا فریقہ

کتابت : فہی چریا کوٹی

صفحات : ایک سو چوراسی (۱۸۳)

اشاعت : ۲۰۱۴ء - ۱۴۳۵ھ

قیمت : روپے

طبعات :

۰ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Copyright©2014 by Idara Faroghe Islam. All rights reserved.
The income out of this book is dedicated to forever.
(ادارہ فروغ اسلام) (forever).

میرے مولا!

تیرے نام

محض تیری توفیق و عنایت سے یہ کچھ ہو سکا

بایں مقصد کہ شوقِ ملاقات کی چنگاری تیرے بندوں کے دلوں میں بھڑک اُٹھے

نیم شی کی خلوتوں میں اُن کی آنکھیں تیرے لیے ساون بھادوں بن جائیں

خوف آختر اور حساب ہائے قبر و حشر انھیں مرغِ بُمل بنادیں

تیرے ذکر و فکر کی للک اُن کے رُگ و پے میں سما جائے

اور وہ صرف اور صرف تیرے ہو جائیں

طالبِ رحمَت و معرفت

ابورفقہ محمد افروز قادری چریا کوٹی

☆ خوش نصیب دہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔

فہرست

07	دوباتیں
12	تقریظ جلیل۔ از علامہ ڈاکٹر محمد عاصم عظیمی گھوسوی۔ دامت برکاتہم۔
15	تقدیم۔ از علامہ مولانا مفتی محمد عبدالنبین نعماںی قادری۔ مدظلہ انورانی۔
24	گنگہ گاری سے پرہیز گاری کا سفر
27	خود غرضی سے توبہ
29	عجز و افسار کا عالم
31	پس مرگ کیا بیتی
32	شوقي ناجات کا رنگ
34	دینار کی توجیہ نہیں
35	بیشتر عمل، علم بے سود ہے
38	عجائیب قدرت سامان صد عترت
40	غوروں کا سرنیچا
41	نگاہِ مردِ مون سے بدل جاتی ہیں تقدیریں
53	رحمت خداوندی بہانہ می جو یہ
57	صحبوتوں کا فیضان

☆ عقلمند انسان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ کسی خوش قسمتی کا محتاج نہیں ہوتا۔

58	قرآن ذریعہ شادابی دل
58	دم رخصت کے مناظر
59	دین و دنیا کی حقیقت
60	مصیتیں کیوں کر آتی ہیں؟
61	تلکیف کا انجام راحت
62	رت جگوں کی کہانیاں
64	مسلم خواہیدہ اٹھ ہنگامہ آ رات تو بھی ہو
64	خیشیت مولا کا جد اگانہ رنگ
70	کیفیت ولایت
71	اور ان کا کیا دھر اس ب اکارت گیا!
74	خواہشوں پر کنڑوں ہر خیر کا سرچشمہ
78	رونے سے گناہ دھلتے ہیں
79	داستانِ گریہ و بکا
81	ہزار بار توبہ شکنی باز آ
82	سفر حج کی روح پرور داستانیں
86	طوفِ خانہ کعبہ کے دوران
93	سعدونِ مجنوں کی فرزائی

☆ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی نصیبی کا ثبوت ہے۔

95	بے فیضِ دوستی سے بچوں
96	بے زبانوں کی عبرت آگئیں باتیں
97	دنیا دھوکے کی ٹیٹی
104	دنیا تجھے تین طلاق
105	سچا و اعظظ کون؟
106	ٹوٹے دلوں کی آہیں
108	گناہ بے گناہی
108	زمیں کھا گئی پہلوان کیسے کیسے!
109	قبر سے ایک مکالہ
111	صحیفہ ہائے سماویہ کی کچھ دل لگتی باتیں
119	انبیاء سبقین کے اقوال و واقعات
127	بزرگوں کی باتیں باتوں کی بزرگ
138	اربعین مالک بن دینار
148	مردیات مالک بن دینار
172	مناجات دربارگاہ مجیب الدعوات
175	کتابیات
	اختمام کتاب

☆ بہترین داعی وہ ہے جو زبان سے پہلے اپنے کردار سے دعوت دے۔

دو باتیں

حمدًا لله و صلواة و سلاماً على مصطفاه وعلى آله
و صحبه و من والاه، في مبدأ الأمر و منتهاه .

الله تعالى، ارحم الراحمين، همارا معبود حقیقی اور خالق و مالک ہے۔ یہ کائناتِ ارضی و سماوی اور جو کچھ اس میں ہے، اسی کا بنیا یا ہوا ہے۔ وہ رحمٰن و رحیم، اپنے بندوں کو کیسے کیسے نوازتا ہے اور ان پر کس قدر مہربان ہے اس کا پورا بیان کسی سے کہاں ہو سکتا ہے!۔ اس کی کمالی معرفت کے نصیب!!۔ کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو اس کی حمد و شناختے رہتے ہیں اور اُس کی شکرگزاری میں لگے رہتے ہیں۔

اُس مالک و مولا کا احسانِ عظیم ہے کہ اس نے ایمان جیسی بیش بہانعت ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ عطا فرمائی۔ ہمیں رب العزت جل مجده کی پیچان بھی رسول گرامی وقار ﷺ کی بدولت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری اور سب سے پیارے رسول ﷺ مقصود دو عالم اور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تمام نعمتیں ہمیں انہی کے طفیل ملی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے سب سے افضل و اعلیٰ اور خیر الخلق رسول اکرم ﷺ کا ہمیں امتی اور غلام بنایا، اسی نسبت کو ہم اپنا بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ دین و دنیا کی ہر بھلائی اور دنیوی و اخروی ہر کامیابی ہمارے لیے اسی نسبت کی پابندی اور چنگی میں ممکن ہے، اور اسی نسبت کی قدر میں ہماری نجات کی ضمانت ہے۔

نبی آخر الزماں، فخر کون و مکان حضور شفیع عاصیاں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مقدس و مطہر اہل بیت، معزز و کرم اصحاب اور ان کی امت کے برگزیدہ اولیاء علماء حق کی محبت

☆ 'خلاص' دنیادار کے لیے لغت کا ایک لفظ ہے؛ مگر اہل محبت کے لیے بجائے خود ایک مکمل لغت ہے!۔

وعقیدت اور تعظیم و تکریم ہمارا ایمانی اور روحانی سرمایہ ہے یہی وابستگیاں ہمیں صراط مستقیم پر گامزد رکھئے ہیں۔

اے رب کائنات! ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو وحدۃ لا شریک ہے۔ باخوں میں کھلے ہوئے پھولوں کا حسن دل فریب، دریاؤں کی روائی، صحراؤں کی ویرانی، آسمانوں کی وسعتیں، اور مہہ و سال کی گردشیں تیرے خالق مطلق ہونے پر کافی دلیل ہیں۔ مولا! تو نے ہم پر اپنی نعمتوں کی برسات کر دی ہے، آخر تیری کن کن نعمت کا شکر آدا کیا جائے!۔

جو قتلیوں کے پروں پر بھی پھول کاڑھتا ہے

یہ لوگ کہتے ہیں 'اُس کی' کوئی نشانی نہیں

اے رب جلیل! تیری تعریف میں صحیح و شام، عند لیبانِ چمن کے نغموں سے فضا معمور رہتی ہے۔ بے شمار فرشتے ہر وقت تیرے حضور سر بخش درہتے ہیں۔ کوہ و دمن سے سجان تیری قدرت کی آوازیں اٹھتی رہتی ہیں؛ لیکن تیری تعریف کا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ اور ہو بھی کیسے؟ دنیا جہان کے سمندر سیاہی بن جائیں، یہ خشک ہو سکتے ہیں؛ لیکن تیری تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔

اے مالک و مولا! تیرے بعد تیرے دلبر، شفیع محشر و ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ ہم تیری ہی توفیق سے تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایجاد کرتے ہیں کہ آقا! کروڑوں درود ہوں آپ کی ذاتی ستودہ صفات پر کہ آپ کے بحر عظمت میں بھی لاکھوں باکمال غواص، غوط زدن ہوئے؛ لیکن اس بحر بے پایاں کا کوئی کنارہ نظر نہ آیا۔ تحکم ہار کر آخراً نہیں یہی کہنا پڑا یعنی:

'بعد از خدا بزرگ توئی قصہ منظر'

اے امت کے سہارے! اُن رحمتوں سے ہمارا بھی کوئی حصہ ہو جائے جو دن رات آپ کے قبہ انور پر برستی رہتی ہیں۔ "صلی اللہ علیک یا رسول اللہ و سلم علیک یا حبیب اللہ"

☆ جس کو احسان نہ جا سکے، پھر بھلا اسے کون جا سکتا ہے!.



کاروانِ عشق و مسیٰ کے قافلہ سالار حضرت مالک بن دینار۔ رحمہ اللہ و رضی عنہ۔ کی شخصیت ارباب علم و معرفت کے نزدیک کسی تعارف کی محتاج نہیں، یوں ہی آپ کی حکایتوں، کرامتوں اور دل لگتی باتوں سے طبقہ عوام بھی یک گونہ روشناس ہے۔ خداۓ بخشندہ نے اپنی جن عطاوں سے آپ کو بہرہ و رکیا تھا ان کی خیرات و برکات اب بارندہ کی طرح ہم پر برس رہی ہیں، اور امت مسلمہ آج تک ان سے اکتسابِ فیض و نور کرتی چلی آ رہی ہے۔

آج کے اس خلفشار اور بے یقینی کے دور میں جب اسلام کو ہر طرف سے تنہیہ مشق بنا یا جا رہا ہے، امت مسلمہ ہی کے کچھ افراد نام نہاد واعظین و مبلغین کے لبادے میں مصروف عمل ہیں جنہوں نے روح اسلام کی تبلیغ و ترویج کی بجائے اسلام کے مادی تصور کو ابھارنا اپنا مطیع نظر بنا لیا ہے۔

روحانیت کی نفی، عشق رسول کا رد و انکار، ممحزات پر جرح و تنقید، اور کشف و روایا کی تکذیب پر اپنی زبان قلم کا زور صرف کرنا ان کا شعار ہے۔ اولیا و صوفیہ کی محبت اور ان کی تعلیمات سے انکاری ہو کر وہ اسلام کا ایسا من گھڑت خاکہ پیش کرتے ہیں جو ان کی ماڈی توجیہ سے تو ہم آہنگ ہے؛ لیکن اسلام کی حقیقی تعلیمات کے ساتھ اُس کا دور کا بھی علاقہ نہیں۔ یوں اس نقطے پر آ کر ان کی اور دشمنانِ اسلام مستشر قین کی بولیاں کسی حد تک ایک دوسرے سے مل بھی جاتی ہیں؛ اس لیے کہ اسلام دشمن نظریات کے حامل مغربی دانش و را اور مستشر قین بھی امت مسلمہ کو اسی سرچشمے سے دور کرنا چاہتے ہیں جو روحانیت سے پھوٹتا ہے اور یہ نام نہاد مبلغین اسلام بھی روحانیتِ اسلام کے فیضان سے منکر ہو کر ان کے ہم نوابن گئے ہیں۔

☆ جب آدمی موت سے نہیں نکل سکتا تو بھلا وہ خدا سے کیے نکل پائے گا!

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل استشراق اور مغربی مفکرین اپنی بے تکان علمی و فکری تگ و دو کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ (اُن کے اپنے قول کے مطابق) سیاسی اسلام تو کئی بار شکست و ریخت سے دوچار ہوا اور اُس کی اینٹ سے اینٹ نج گئی؛ مگر روحانی اسلام بھی بھی کسی محاذ پر سرگنوں نہ ہوا، اور ہزار کوششوں کے باوجود اُسے زیر نہ کیا جاسکا، اور وہ سیل بے بند کی مانند چہار دا انگ عالم میں دلوں کی سرزیمیںوں پر قبضے جما رہا ہے اور باراں رحمت کی طرح دنیا کے ہر خطے میں پہنچ کر لاہے زاریوں اور شادا یوں کی خیرات بانٹ رہا ہے۔

یہ تو اسلام دشمنوں کی شہادت تھی؛ مگر اسلام دوست کھلانے والوں میں بھی کچھ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کی روحانی طاقت و شوکت کا چراغ گل کر دینا چاہا ہے اور ایک منظم سازش کے تحت اس کی جاذبیت و کشش کو کھرچ لینے کی فکر میں آج تک سرگردان ہیں؛ مگر انھیں یہ جان لینا چاہیے کہ 'پھونکوں سے یہ چراغ بچایا نہ جائے گا'۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم اور دل پینا عطا کرے۔

یہ حضرت مالک بن دینار۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ بھی اُن ہی صاحبان باطن میں سے ایک ہیں جن کی پوری زندگی ظاہر کی تعمیر و ترقی کے ساتھ باطن کی تطہیر و تزکیہ کے اصول مرتب کرنے میں گزری۔ ہم نے مقدور بھر کوشش کی ہے کہ کتابوں کے ذخائر میں مستور حکمت و آگئی سے بھر پورا ن جواہرات کو ترتیب سے سجا کر قارئین کے سامنے پیش کر دیں تاکہ ارباب شوق اور دل ہاے مشتاق اپنے ذوق کے مطابق حظ اٹھا سکیں؛ لہذا جہاں جہاں آپ کے آقوال و فرمودات اور حکایات و کرامات نظر افروز ہوئیں ہم نے ایک خاص ترتیب سے دیانتداری کے ساتھ سپرد قرطاس کر دی ہیں اس امید پر کہ شاید مادی دنیا کی نیرنگیوں اور اس کی جھوٹی چمک دمک کے نیچے اُن کی نصیحتوں کا کوئی پارس آپ کے آگینہ دل سے مس ہو جائے اور پھر اس کے لمس سے آپ بھی بیش قیمت بن جائیں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔

☆ غم کتنا ہی عگین ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔

سچ پوچھیں تو آج ہمیں روحانیت کے مقام پر زیادہ حساس ہونے اور اس کا گراف بلند سے بلند تر کرنے کی ضرورت ہے؛ کیوں کہ اس سے قلب و باطن کا نظام اُستوار ہوتا ہے اور دنیا سے روح جگھاتی ہے..... روحانیت قال سے نہیں حال سے عبارت ہے..... یہ علمی نظریے کا نام نہیں بلکہ عملی تجربے کی چیز ہے اور یہ تجربہ بھی ماڈی نہیں سراسر باطنی ہے..... روحانیت، عقل و خرد اور دید و شنید سے حاصل ہونے والی چیز نہیں بلکہ یہ باطن سے پھوٹتی ہے..... یہ تقریباً ابلاغ کے حصی و ماڈی تاروں سے نہیں بلکہ گرمی آنفاس کی پاکیزہ موجودوں سے پھیلتی ہے..... یہ الفاظ کے قالب میں نہیں سماقی بلکہ احساس کی گہرا سیوں میں اُترتی ہے..... روحانیت کہنے سننے کی چیز نہیں بلکہ سیکھنے اور برتنے کی چیز ہے..... یہ وہ حقیقت ہے جو انسان بطریق سلوک و تصوف پاتا اور شکوک و شبہات سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس، تصفیہ باطن اور پاکیزگی نفس کا الہوی انداز اور وصول الی اللہ کا باطنی و پوشیدہ راز ہے۔

آپ یقین جانیں کہ اگر ہماری دل کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور ہمارے باطن کا انسان سنور گیا پھر تو صحیح معنوں میں ہم نے رازِ حیات پالیا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلیین پاک کے صدقے ہمیں اپنے محبوبان بارگاہ کی محبت عطا کرے اور ہر حال میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سارا غی زندگی
تو اگر میرا نہیں بتانہ بن اپنا تو بن

دعا گو و دعا جو

ابورفقہ محمد افروز قادری چریا کوٹی
دلاس یونیورسٹی، کیپ ناؤن، جنوب افریقیہ

☆ جس انسان کے دل میں روشنی نہ ہو وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا۔

تقریظ جلیل

مُفکر ملت، مورخ عصر، أدیب لیب علامہ ڈاکٹر محمد عاصم عظیمی گھوسی - دامت برکاتہم

بسم اللہ الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهُ وَنَسْلِمُ عَلَى حَبِيبِ الْكَرِيمِ وَآلِهِ وَصَاحِبِيهِ اجْمَعِينَ

عصر حاضر سائنسی ایجادات و اختراعات کے لحاظ سے ماستق زمانوں پر یقیناً فائق ہے۔ سائنسی ترقیات نے انسانی دنیا کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے، اور نئی ایجادات ہمیں عیش آرام کے ایسے وسائل بھی پہنچا رہی ہیں جن کا ماضی میں تصور بھی ممکن نہ تھا۔ آرام و آسائش اور معاشی خوش حالی نے انسانی دنیا کو درجہ تعیش پسند اور مادہ پرست بنادیا ہے۔ بے حیائی، عربی، بدکاری نقطہ عروج پہنچ گئی ہے، جس نے انسانی اقدار کو پامال اور اخلاقی روایات کو مجروح کر دیا ہے۔

ماڈیت کی یلغار نے روحانی اقدار کے ایوانوں کو زمین بوس کر دیا ہے۔ اخلاقی ابتری، خود غرضی، عیش کوشی اور طرب انگیزی پورے سماج پر عفریت کی طرح مسلط ہو گئی ہے۔ انسانیت و شرافت، حسن معاشرت، حسن اخلاق کے نقوش دھنڈ لے پڑ گئے ہیں۔ سائنسی ایجادات، عیش و تعمیر کی فراوانی، انسانی جسم کی آرائیش و آسائش کا سامان تو فراہم کر رہی ہے؛ لیکن روح انسانی، مضخل اور قلب، اضطراب و بے چینی کا شکار ہے۔ دنیا، بیمار قلب و روح کا مدار ابتلاش کر رہی ہے۔

☆ اللہ کی یاد کرنے والوں نے قبرستانوں میں میلے گا دیے، اور عاقل لوگوں نے زندگی کو ہی قبرستان بنادیا۔

ان حالات میں مجروح قلب و ذہن اور مضطرب و پریشان روح انسانی کے لیے صحت بخش مرہم اور طمانیت افروز نسخہ کیمیا عہدِ مااضی کی منتخب اور برگزیدہ علمی اور روحانی شخصیتوں کی سیرت و کردار، اور ان کے اخلاقی و روحانی واقعات و تعلیمات ہی سے اخذ کیے جاسکتے ہیں، جن کا مطالعہ ماذیت کی چوٹ سے مضطرب انسان کو سکون واطمینان کی دولت سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ مادی یلغار کا دفاع صلحائے امت کے افکار و آقوال کی روشنی ہی میں ممکن ہے۔

وقت کی اسی اہم ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے فاضل جلیل نوجوان عالم ربانی مولانا محمد افروز قادری چریا کوئی نے مقتدرتابی، علم و عرفان کے روشن مینار، حضرت ابویحیٰ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبق آموز اور عبرت آفرین واقعات و حکایات کو اس کتاب بُلول سے حکمت پھوٹے، میں بڑی خوش سیلیقگی اور حسن ترتیب کے ساتھ اس امید پر جمع کر دیا ہے کہ شاید ماذی دنیا کی نیرگیوں اور اس کی جھوٹی چمک دمک کے پیچ ان کی نصیحتوں کا کوئی پارس آپ کے آگینہ دل سے مس ہو جائے اور پھر اس کے مس سے آپ بھی بیش قیمت ہو جائیں۔

مولانا محمد افروز قادری چریا کوئی، صاحب علم و قلم نوجوان عالم و فاضل ہیں جنہوں نے زمانہ طالب علم ہی سے قرطاس و قلم سنبھال لیا اور پوری لگن و دل سوزی کے ساتھ مختلف موضوعات پر تھوڑی ہی مدت میں بہت سی اہم کتابیں لکھ دیں جو ان کے کثرت مطالعہ، قوتِ اخذ و استنباط اور حوصلہ مندی کی واضح علامت ہے۔ ان کا پاکیزہ تصنیفی و تالیفی ذوق ملت کے جواں سال علماء کے لیے واضح اشارہ ہے کہ نوجوان نسل جس طرف متوجہ ہو جائے اپنے صالح اور ثابت جذبہ فکر و عمل سے انقلاب پیدا کر سکتی ہے۔

☆ سائل بڑے راز کی بات ہے، وہ بظاہر کچھ مانگنے کیلئے آتا ہے، لیکن درحقیقت کچھ دینے کیلئے آتا ہے۔

مولانا محمد افروز قادری چریا کوئی نے زیر نظر کتاب میں واقعات کی چھان بین اور بنیادی مآخذ و مصادر کی طرف مراجعت کے سلسلے میں بڑی کاوش اور دیدہ ریزی کی ہے۔ حکمت و معرفت کے موتیوں کو سلک گھر میں پرونسے کا کام کیا ہے۔ آپ کا ذوق جبتو اور انہا کِ عمل لاکن صد آفریں ہے۔

کتاب میں مندرج حکایات اور اقوال عربی و فارسی کتابوں سے اخذ کیے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ بڑی سلاست اور فصاحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ عبارت میں کہیں بھی تحت اللفظ ترجمے کا آخر نظاہر نہیں، یہ مؤلف کے اسلوب نگارش کا کمال ہے۔

خداوند تعالیٰ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس قلمی کاوش کو قبول فرمائے اور اس کے استفادے کو عام کرے اور انھیں تصنیف و تالیف کی شاہ راہ پر تیز گامی کے ساتھ چلنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

محمد عاصم عظی

استاذ: جامعہ شمس العلوم، گھوٹی، منو۔

۲۰۱۱ء / مارچ

☆ رحم، اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔

﴿تَقْدِيم﴾

حضرت مالک بن دینار اور حکمت کے بول،

مُفکر اسلام، مصلح ملت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالجیب نعماں قادری - مدظلہ العالی -

نحمدہ و نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم وآلہ و صحبہ اجمعین.

اللہ والوں کا تذکرہ دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے، اور ان کا ذکر ان سے ملاقات کے قائم مقام ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر جو صفات تھیں وہ دنیا والوں میں متاز تھیں اور ان کا مقام و مرتبہ اتنا عالی تھا کہ کوئی بھی قیامت تک ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . (۱)

سب سے ہتر میرا زمانہ ہے پھر اس کے بعد والے، پھر ان سے ملنے والے۔

یعنی سب سے بڑا درجہ صحابہ کرام کا پھرتا بیعنیں کا پھر تبع تابیعنیں کا۔ صحابہ کرام میں بھی مختلف رنگ کے لوگ تھے، پھر تابیعنیں و تبع تابیعنیں میں بھی۔ کسی پر علم غالب تو کسی پر عمل و تقویٰ، اور کوئی زہد و ورع کا پیکر۔ جیسے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ویسے ہی تابیعنیں عظام کے آحوال و کردار بھی ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔

تابیعنیں کرام میں ایک ذات ہے حضرت مالک بن دینار بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو علم کے ساتھ زہد و تقویٰ کے بھی پیکر تھے، اور ساتھ ہی آپ کے آقوال و ارشادات بڑی کثرت سے تذکرے کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کے تقویٰ و ارشادات علم

(۱) الحجیم الحجری فی تخریج احادیث الرافعی الکبیر: ۳۲۶ حدیث: ۲۲۲..... اتحاف الحجۃ الہمہ بزداائد المسانید المختصرۃ: ۷/۱۲ حدیث: ۲۹۹۳۔

☆ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی؛ ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا!

و حکمت کے آبدار موتی ہیں اور عبرت و نصیحت کے بیش بہا خزانے، جو احادیث و سیرت کی کتابوں میں منتشر ہیں، جنہیں مولانا محمد افروز قادری چریا کوئی نے بڑی عرق ریزی اور جاں کاہی سے تلاش کر کر کے ایک لڑی میں پر و دیا ہے۔ یہ ارشادات علماء کے لیے درس عبرت ہیں، اور صوفیہ کے لیے بھی سبق آموز۔ ذیل میں ان کی حیات باہر کات کے چند واقعات تذكرة الاولیا، از: فرید الدین عطار علیہ الرحمہ و دیگر کتب سے اقتباس کر کے ہدیہ ناظرین ہیں، انھیں پڑھیں اور حضرت مالک بن دینار کے احوال و مفاتیح کی معنویت سے محظوظ ہوں۔

☆ آپ کی زندگی میں انقلاب یوں آیا کہ جامع مسجد دمشق جس کو حضرت امیر معاویہ نے تعمیر کرایا تھا آپ اس میں اس غرض سے متعکف ہو گئے کہ اس عالی شان مسجد کے متولی بنادیے جائیں۔ ایک سال تک مختلف رہے اور ہر وقت نماز میں مشغول رہتے۔ پورے ایک سال کے بعد جب آپ مسجد سے باہر نکلے، نداۓ غیبی کا نوں سے نکل رکھا تھا؟ اے مالک! تو کیوں تو بہ نہیں کرتا!

جب آپ نے یہ آواز سنی، گھبرا کر دوبارہ مسجد میں آگئے، اور مسجد کی تولیت کے خیال کو دل سے نکال کر اخلاص کے ساتھ عبادتِ الہی میں مصروف ہو گئے، اور ایک سال کی عبادت کو گنوانے پر شرمندہ بھی ہوئے۔ جب صحیح کی تولوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: مسجد کو ایک اچھے متولی کی ضرورت ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی شخص ہماری نظر میں نہیں آتا۔

حضرت مالک بن دینار نے دل ہی دل میں کہا: خداوند! ایک سال تک سخت ریاضت کی، کسی نے پوچھا تک نہیں، اب جب کہ میں نے اپنی نیت کو درست کر لیا ہے تو تو نے اتنے آدمیوں کو بھیج دیا کہ یہ کام میرے ذمہ کر دیں، خدا کی قسم! اب میں مسجد سے باہر نہیں نکلا چاہتا، یہ کہہ کر پھر ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہو گئے۔ (اور اس منصب کو قبول کرنے سے انکار دیا)۔

☆ حال کے عمل سے ماضی کا عمل بدل سکتا ہے۔ ماضی کفر ہو تو حال گلہ پڑھ کے مومن ہو سکتا ہے!

یہ واقعہ ہمارے لیے کیسا درسِ عبرت ہے کہ اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ جو بھی عمل کیا جائے ضرور اپنا آثر دکھاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ والے دنیاوی عہدوں کی پرواہ نہیں کرتے، انھیں تو عبادت خداوندی اور ذکر الہی میں ہی لذت محسوس ہوتی ہے۔

☆ ایک دفعہ ایک دہریے سے آپ کامنا ظرہ ہوا، بہت دری ہو گئی، فیصلہ نہ ہوا تو معاملہ اس پڑھرا کہ دونوں اپنے اپنے ہاتھ آگ میں ڈالیں جس کا ہاتھ جل جائے وہ باطل پر سمجھا جائے گا؛ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا مگر دونوں میں کسی ہاتھ نہ جلا، لوگ کہنے لگے دونوں حق پر ہیں۔

اس بات سے دل گیر ہو کر آپ گھر میں گئے، اور سر نیاز بارگاہ خداوندی میں رکھ کر مشغول مناجات ہو گئے۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خداوند! ست سال کی عبادت و ریاضت کے بعد ایک دہریے کے برابر ہو سکا۔ غیب سے آواز آئی: تمہیں معلوم نہیں کہ حضن تمہارے ہاتھ کی برکت سے دہریے کا ہاتھ نہ جلا، اگر وہ تہبا ہاتھ ڈالتا تو فی الفور جل جاتا۔

اس حکایت سے سبق ملک کے اس طرح کی شرط سے حق و باطل کا قطعی فیصلہ نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ اللہ والوں کے قرب کی برکت کافر کو بھی ملا کرتی ہے، اگرچہ عارضی طور پر، تو بھل اسلام کیوں محروم رہیں گے؟ اس لیے اللہ والوں کے قرب اور ان کے جوار کی تلاش میں رہنا چاہیے۔

☆ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکان کرایے پر لیا، آپ کا پڑوی ایک یہودی تھا، آپ کے مکان کی محراب (یعنی صدر دروازہ) یہودی کے دروازے پر تھا جہاں اس نے اپنا پاخانہ بنوادیا اور روزانہ نجاست آپ کے مکان کی طرف بہادیتا۔ ایک عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا لیکن آپ نے کسی سے اس کا تذکرہ نہ کیا، نہ کوئی شکایت کی۔

ایک دن وہ یہودی آ کر کہنے لگا کہ آپ کو میرے پاخانے سے کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہوتی۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: میں نے ایک برتن اور جھاڑ و رکھ لیا ہے۔ روزانہ گندگی صاف کر لیتا ہوں بس اور کوئی تکلیف نہیں۔ آپ کے اس تخلی اور برداشت کو دیکھ کر

☆ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں محبت درکار ہے اور افسوس ہم محبت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں!۔

وہ یہودی اتنا متاثر ہوا کہ اسلام قبول کر لیا۔

یہ حکایت اور حضرت ابن دینار علیہ الرحمہہ کا کردار ہمارے لیے درسِ عبرت ہے؛ کیوں کہ ہم ذرا سی بات کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور معمولی معمولی باتوں پر پڑوئی سے لڑ بیٹھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ حسن اخلاق اور تحمل کے بڑے فوائد ہیں کہ بسا اوقات اس سے کفر کی زنجیریں بھی کٹ جاتی ہیں جیسا کہ مذکورہ واقعہ شاہد ہے۔

☆ حضرت ابن دینار کے زمانے کی بات ہے۔ ایک بار بصرہ میں آگ لگ گئی۔ آپ عصا اور جوتیاں لے کر کوٹھ پر چڑھ گئے اور دیکھنے لگے کہ کوئی اپنا مال و اسباب نکال رہا ہے، کوئی جل رہا ہے، اور کوئی بھاگ رہا ہے۔ آپ نے یہ بھی انک منظر دیکھ کر فرمایا: ”یہی حال قیامت کے دن ہو گا۔“

واقعی اللہ والوں کی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں آگ لگتی ہے تو ہم صرف تماشا دیکھتے ہیں، ہم میں کوئی نہ قیامت کو یاد کرتا ہے نہ جہنم کا خوف دلوں کو ستاتا ہے؛ حالاں کہ ہم دنیا کی آگ سے جتنا ڈرتتے ہیں اتنا بھی آخرت کی آگ سے ڈرنے لگیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے اور گناہوں سے بآسانی نجح سکتے ہیں۔

☆ حضرت جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار کے ساتھ مکہ معظمہ میں تھا جب انہوں نے لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ کہا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش میں آئے تو میں نے وجہ پوچھی: فرمایا: مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے لَبَّیْکَ کا جواب لاَلَّبَّیْکَ نہ آ جائے۔

اسوس ہم ذرا سی عبادت کرتے ہیں تو پھوٹے نہیں ساتے اور قبولیت کا یقین کر لیتے ہیں؛ لیکن اللہ والے ہر طرح کی عبادت و ریاضت اور زہد و تقویٰ کے باوجود عدم قبولیت سے لرزائ و ترسائ رہتے ہیں، جیسے حضرت مالک بن دینار۔ اللہ ان پر بے شمار حجتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات پلند کرے۔ یہ واقعہ حاجیوں کے لیے خاص طور سے درسِ عبرت ہے۔

☆ چاہی سبب اور نتیج کی سائنس ختم ہوتی ہے، وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے۔

☆ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ ایسا کَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پڑھتے تو زار و قطار روتے اور فرماتے، اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں ہرگز نہ پڑھتا۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا: ہم منہ سے تو اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگنے کا اقرار کرتے ہیں؛ لیکن حال یہ ہے کہ معمولی معمولی باتوں میں بھی دوسروں پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی ہماری زیادہ تر توجہ اسباب و آلات پر ہوتی ہے جب کہ کامل توجہ رب عز و جل ہی کی طرف ہونی چاہیے کہ وہ ہی معبود ہے اور وہی حقیقی مستعان، باقی جو کچھ ہے وہ مظاہر وسائل ہیں۔

☆ آپ کے زہد کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس ایک ہی پیرا ہن تھا جس کی وجہ سے آپ بڑے بڑے دیگر بزرگوں سے خدا کی بارگاہ میں زیادہ مقبول تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے حضرت مالک بن دینار اور حضرت محمد واسع کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ انھوں نے کہا: دیکھوں کون پہلے جنت میں جاتا ہے؟ چنانچہ حضرت مالک بن دینار کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا، اس کے بعد حضرت محمد واسع کو۔

بزرگ نے تجہب سے پوچھا: محمد واسع زیادہ کامل اور بڑے عالم تھے (یعنی انھیں پہلے جنت میں لے جانا چاہیے تھا) جواب ملا کہ یہ تفاؤت محض اس لیے برنا گیا کہ حضرت مالک بن دینار کا ایک ہی پیرا ہن تھا (یعنی آپ تو کل میں زیادہ کامل تھے) اور محمد واسع کے دو پیرا ہن تھے۔^(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بعض وہ خوبیاں بھی بڑا درجہ رکھتی ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ تابعین اور اکابر رہنما و صالحین میں تھے۔ آپ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ کے احباب سے تھے۔ طریقت میں آپ کا

(۱) تذکرۃ الاولیاء، از: فرید الدین عطار۔

☆ ہمیں جن لوگوں کو اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے کیوں نہ ان کو زندگی ہی میں کوئی خوشی دی جائے!

بڑا مقام ہے۔ آپ کی کرامات بہت مشہور ہیں اور آپ کے آقوالی زریں حکمت و نصیحت سے پُر ہوا کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے واقعات نفس کی اصلاح میں بڑا اچھا کردار ادا کرنے والے ہیں۔

آپ پہلے عیش و عشرت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک روز آپ ایک گروہ کے ساتھ عیش و عشرت میں مشغول تھے کہ جب سب سو گئے تو برباط سے آواز آئی: یا مالک مالک ان لاتوب؟ اے مالک! تجھے کیا ہوا کہ تو بہ نہیں کرتا!

یہ سننا تھا کہ آپ نے تمام ہو و لعب اور عیش و عشرت کے کاموں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر توبہ کی اور پچھتہ توبہ کی، پھر آپ ولایت کے جس بلند مقام پر فائز ہوئے وہ آپ کی زندگی کے واقعات اور ایمان اور فروز ارشادات سے بخوبی ظاہر ہے۔

چنانچہ آپ کی کرامتوں میں یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ ایک بار آپ کشتی میں سوار ہوئے، اس کشتی میں کسی کا ایک موتی غائب ہو گیا اور حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ کی حالت اس کشتی میں چوں کہ سب سے خستہ تھی، لوگوں نے آپ پر چوری کی تہمت لگادی۔ آپ نے اپنا سر کچھ دیر آسان کی طرف اٹھایا کہ دریا میں جتنی مچھلیاں تھیں پانی کے اوپر آگئیں اس حال میں کہ ہر مچھلی کے منہ میں ایک ایک موتی تھی۔ حضرت مالک بن دینار نے ایک مچھلی کے منہ سے موتی لیا اور کشتی والوں کے حوالہ کر دیا اور اس کے بعد فوراً آپ نے کشتی سے پاؤں کو نکالا اور دریا کے پانی کے اوپر رکھا اور فوراً دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔⁽¹⁾

آپ نے اپنے دل کو سونوار لیا تھا، دنیا کی آلاتشوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو نماز میں مصروف رہتے۔

(1) کشف الحجب، حضرت دامت عینہ بخش لاہوری علیہ الرحمہ

☆ مستقبل واضح نہ ہوتا حال، اپنی تمام تر آسائشوں کے باوجود بے معنی نظر آتا ہے۔

کئی سال تک یہ دستور رہا کہ آپ نان بائی کی دوکان پر جا کر صرف ایک روٹی خریدتے اور اسی سے روزہ افطار کرتے، پھر پورا وقت یوں ہی بغیر کھائے پیے گزار دیتے۔ واقعی جس کا پیٹ جس قدر خالی ہوتا ہے اسی قدر اس سے حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔

زہد کا یہ عالم تھا کہ آپ کافس برابر گوشت کی آرز و کرتا رہا لیکن بیس سال تک آپ نے گوشت کو ہاتھ نہ لگایا۔ چالیس سال بصرے میں رہے لیکن خرمے کو ہاتھ میں نہ لیا۔ زہد میں آپ اپنا ثانی نذر کھلتے تھے۔ پورا سال آپ کا سالم یہ ہوتا کہ آپ کے لیے دو پیسوں کا نمک خرید لیا جاتا اور بس۔ گوشت، صرف قربانی کے موقع پر تناول فرماتے کیوں کہ اس بارے میں حکم وارد ہوا ہے کہ اسے کھاؤ۔

اپنے گھروں کو فرماتے کہ جو شخص یہ قلت اختیار کرنے میں میری موافقت کرے تو وہ میرے ساتھ رہے؛ ورنہ جدا ہی۔

آپ کا پیشہ یہ تھا کہ کھور کے چپوں کا سامان بنا کر روزی کماتے تھے۔ بعض اوقات مصاحف (قرآن) کی کتابت کرتے اور اس سے جو ملتا اُسے کھاتے۔ آپ کے گھر میں مصحف، لوٹا اور چٹائی کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور فرماتے: بوجھ اٹھانے والے ہلاک ہو گئے، اور دعا فرماتے: اے میرے اللہ! مالک بن دینار کے گھر میں دنیا کی کوئی چیز داخل نہ فرماء۔

تحصیل علم میں بھی آپ کا مطلع نظر یہ تھا کہ علم، عمل کے لیے حاصل کیا جائے؛ چنانچہ فرماتے ہیں: جب آدمی علم اس لیے حاصل کرے کہ اس پر عمل کرے گا تو اس کا علم زیادہ ہوتا ہے اور جب عمل کی نیت کے بغیر علم حاصل کرے تو نافرمانی تکبر اور لوگوں کو حقیر جانے کا عمل زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کا وصال ۱۳۱ھ میں ہوا۔^(۱)

(۱) طبقات امام شعرانی۔

☆ میاں یوں کو بلغ دیوار کی طرح رہنا چاہیے؛ وہ بلغ ہی کیا جو بہار سے بیگانہ ہو اور وہ بہار ہی کیا جو بلغ سے نگز رے۔!

علم کی نیت سے متعلق حضرت مالک بن دینار کا یہ قول بڑا ہی معنی خیز اور عبرت آموز ہے۔ آج کل عام طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کو علم کی دولت ملتی ہے وہ اس پر تکبیر کرتا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور عمل سے دور ہوتا جاتا ہے، اس کا علم طرح طرح کی تاویلیوں میں الجھا کر خوف و خشیت الہی سے اسے دور کر دیتا ہے۔ جب کہ ہونا یہ چاہیے کہ جس قدر علم زیادہ ہوا سی قدر خشیت خداوندی میں اضافہ ہونہ کے تردید و سرکشی میں جیسا کہ قرآن کریم میں آیا:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِ الْعَالَمِينَ ۝ (سورہ قاطر: ۳۵)

اللَّهُ سَمِيعٌ لِّمَا بَيْنِ أَرْجُونَ

حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ کے وہ اقوال حکمت و موعظت جن سے تزکیہ نفس کو تحریک ہوتی ہے بہت ہیں اور تذکرہ وسوانح کی کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ضرورت تھی کہ ان کو بیکھرا کر دیا جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ عزیز گرامی قدر جناب مولا ناجم افروز قادری چریا کوئی۔ حفظہ ربہ۔ نے ان بکھرے موتیوں کو جمع کرنے میں بڑی کوشش صرف کی ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ان اقوال کو پڑھنا سننا ہمارے دلوں کی دنیا بدلنے میں بڑا مثر ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے کو بدلا چاہیں اور اخلاص و للہیت کے ساتھ انھیں پڑھیں اور سنیں۔

مولی عزوجل اس مجموعہ نصائح اور گلدستہ موعظت کو بول عام کا درجہ دے اور مخلوق کو اس سے استفادے کی توفیق دے۔ آمین۔ بجاہ سید المرسلین علیہ وآلہ الصلوٰۃ والسلیم۔

محمد عبدالنبین نعمانی قادری

المجمع الاسلامی مبارک پور، عظم گڑھ، یوپی / دارالعلوم قادریہ، چریا کوٹ، منو، یوپی
۱۹ نومبر ۲۰۱۱ء / ۱۴۳۲ھ

☆ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔

اللہ حسن و رحیم کے نام سے شروع

سفینہ تحقیق و کرامت، مشاہد شرف و لایت، معدن و فاو صفا، پیکر جود و سخا، راز دار حarf سماویہ، آفتابِ امت، امام عصر، فرید ہر، ارباب زہد و روع کے سردار، کشویر ولایت کے تاجدار، کاروانِ عشق و مستی کے قافلہ سالار حضرت مالک بن دینار۔ رحمہ اللہ و رضی عنہ۔ اہل تصوف کے عظیم مشائخ میں شمار ہوتے ہیں، اور مشاہیر طریقت کے نزدیک عزت و احترام کے لالقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ بلاشبہ اہل طریقت کے برگزیدہ پیش رو ہیں۔ اپنے زمانے میں اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے۔

حلیمی طبع اور خلوصی طاعت کے لیے آپ مشہور ہیں۔ آپ کا کلام نہایت بلغ و بلند پایہ اور عبارت نہایت سادہ و دل نشیں ہوا کرتی تھی؛ آپ کی پوری زندگی سچائی کا مرقع اور آئینہ دار رہی۔

آپ کا شمار وقت کے کبارِ تابعین میں ہوتا تھا۔ ابو بیجی آپ کی کنیت تھی۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بطور خاص سماعت کرنے کا موقع ملا۔ حضرت علی بن مديّنی نے آپ سے روایت کردہ حدیثوں کی تعداد کوئی چالیس بتائی ہے۔

ہم نے تحقیق و تحسیس کے بعد کتاب کے آخر میں ان مرویات کو (باندازِ اربعین) شامل کر لیا ہے۔ آپ کی شاہت مسلم ہے۔ امام نسائی وغیرہ نے آپ کی توثیق فرمائی ہے۔ آپ کی قناعت پسندی کا عالم یہ تھا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، کتابت قرآنی آپ کا پیشہ تھا۔ اور آپ قرآن کریم کے ماہر زرنگاروں میں سے ایک تھے۔

☆ خوب کی اوچی اڑانیں بیان کرنے سے زندگی کی پستیاں ختم نہیں ہو جاتیں!

آپ کی وفات بصرہ کے اندر ہوئی۔ مگر سن ارتھاں کے تعلق سے مختلف آقوال ہیں:
 ۱۲۳.....۱۲۹.....۱۳۰.....۱۳۱.....۱۳۴.....واللہ عالم بالصواب۔ (۱)

گنہ گاری سے پر ہیز گاری کا سفر

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کی توبہ کے حوالے سے مختلف اجمانی اور تفصیلی داستانیں صحافتی طبقات و تراجم میں ملتی ہیں۔ آپ کی اجمانی داستان توبہ تو یہی ہے کہ ایک رات آپ اپنے ساتھیوں کی معیت میں محفل عیش و طرب کے اندر مشغول تھے، جب سو گئے تو ایک ساز سے آواز آنا شروع ہو گئی :

يَا مَالِكَ مَالَكَ أَنْ لَا تَتُوبْ؟

یعنی اے مالک! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم تو نہیں کرتے!، ان سازور باب میں کب تک اُلٹھے رہو گے؟۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہاری جمین تو پہ خدا کے سامنے سجدہ کنائی ہو جائے؟۔

انتاسنا تھا کہ حضرت مالک بن دینار کی دنیاے دل متزلزل ہو گئی، قبلہ حیات بدل گیا، اور آپ نے پورے طور پر گناہوں سے ہاتھ کھینچ لیا۔ پھر سب کچھ ترک کر کے حضرت خواجہ حسن بھری علیہ الرحمہ کے پاس آئے اور صدق دل سے توبہ کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انھیں بہت ہی ارفع و اعلیٰ اور بمند وبالا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔

(١) تفصیل و تحقیق کے لیے دیکھیں: طبقات الکبریٰ: ۷۲۲۳.....۱۳۹/۳ میران
الاعتداں: ۳۲۶.....۱۳۹.....تہذیب الاسماء: ۹۲۰/۲سیر اعلام البلاء: ۳۲۵.....الاعلام للدوري: ۵۰۲/۵التاریخ الکبیر: ۷۹۰/۲مشابه علماء الامصار: ۱۲۷/۱تاریخ خلیفۃ: ۳۱۸/۱الحرفی
خرمن غیر: ۷۶.....غایی النہایۃ فی طبقات القراء: ۱۹۱/۱لسان المیزان: ۳/۲۷۲تقریب
التهذیب: ۱۵۳/۲امکال الکمال: ۱۰۷/۱التاریخ الصغر: ۳۵۲/۱من لم روایۃ فی الکتب السیۃ:
۲۳۵/۲الجرح والتعديل: ۱۹۸/۸۱۴۷/۲مشتم: ۳۳۰/۲المختصر فی اخبار البشر: ۱۴۵/۱الاخم
الزائرہ فی ملوك مصر والقاهرہ: ۱۱۹/۱المرتفع والتاریخ: ۲۰۲/۱تاریخ الاسلام ذہبی: ۲۳۳/۲ -

☆ زندگی ایک سایہ و پھلدار درخت ہے جس کو سانس کی آرٹیسل کاٹ رہی ہے، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔

جب کہ آپ کی توبہ کا تفصیلی واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کی اصلاحِ احوال اور توبہ کا سبب کیا بنا؟ تو آپ نے فرمایا :

در اصل میں ایک پولیس میں (Police man) تھا، اور شراب خوری میری سر شرست میں داخل تھی۔ میری ایک لوئڈی تھی، جس نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا، جب وہ اپنے پاؤں زمین پر چلنے لگی تو اس کی الگفت و پیار کی جڑیں میرے دل کے نہاں خانوں تک پہنچ گئیں اور وہ خود بھی مجھے ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں شراب کے نشے میں ڈھست تھا، اُس بچی نے میرے پاس آنا چاہا؛ مگر میں نے غصے کی حالت میں اُسے ایسا دھکا دیا کہ وہ گری اور گر کر وہیں مر گئی۔

پھر جب نصف شعبان کی رات (شب براءت) آئی، تو میں نشے کی حالت میں بے خبر سورا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے قیامت قائم ہو چکی ہے۔ اور ایک دیوبھیل آڑ دھا منہ پھاڑے میری طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، جب میں نے مارے دھشت کے اُس سے راو فرار اختیار کرنا چاہی، تو اتنے میں میری نظر ایک خوش لباس و خوشبو پوش شیخ پر پڑ جاتی ہے۔ میں اُن سے استغاثہ کہتا ہوں:- اللہ آپ کو خوش رکھے۔ برائے کرم مجھے اس آڑ دھے سے بچا لیجیے۔ یہ سن کر شیخ رونے لگے اور فرمایا: مجھ سے ناتوان کی اس شہزادہ زور آڑ دھے کے مقابلے میں حیثیت ہی کیا ہے!، (معاف کیجیے گا، میں آپ کو اس سے نہیں بچا سکتا)۔

پھر میں وہاں سے بھاگ کر ایک آتشیں بند کے پاس آیا، میں اس میں بس چھلانگ لگانے ہی والا تھا کہ کسی نے چیز کر مجھ سے کہا: خدا واسطے یہاں سے لوٹ جاؤ کیوں کہ تم ان میں سے نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں وہاں سے پلٹ گیا۔ ادھر آڑ دھا مجھ سے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا تھا، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں!۔

اسی اثنامیں میری وہ فوت شدہ بیٹی نمودار ہوئی اور کہنے لگی: بابا جان! قسم بخدا، آپ میرے باپ ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپناداہنا تھا میری طرف بڑھایا جسے پکڑ کر میں جھول

☆ جو لیڈر نا اہل ہو وہ اپنے رفیقوں کا گھر کرتا ہے۔ سورج کھلانے کا شوق ہو تو خود روشنی پیدا کریں! ☆

گیا، اور بایاں ہاتھ آڑ دھے کو دکھایا تو وہ بھاگتا بنا۔ پھر اس نے مجھے بڑے چاؤ سے بٹھایا اور خود آکر میری آنکھ میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی: پدر بزرگوار!

اَلْمُيَّانِ اللَّذِينَ اَمْنَوْا اُنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ . (۱)

کیا ایمان والوں کے لیے (ابھی) وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے رقت کے ساتھ جھک جائیں۔

میں نے اس سے کہا: حیرت ہے کہ تم اتنا اچھا قرآن پڑھ لے رہی ہو؟ کہا: ہاں! ہمیں آپ سے کہیں زیادہ حروف قرآنی کی معرفت ہے۔

میں نے پوچھا: اچھا ذرا اس اڑ دھے کے واقعہ کا پس منظر تو بیان کرو کہ وہ میری ہلاکت کا خواہاں کیوں تھا؟ کہا: ابا حضور! دراصل وہ آپ کا عمل بدھا جسے آپ نے اتنا شہ زور اور قوی بنا دیا تھا۔

میں نے پوچھا: اچھا اب ذرا اس شیخ کی بابت کچھ بتاؤ جن سے میرا گزر ہوا تھا (مگر وہ میرے لیے کچھ نہ کر سکے تھے) کہا: وہ آپ کا عمل بخیر تھا جسے آپ نے نہایت نحیف ولا غر کر رکھا تھا کہ عمل بد کے مقابلے میں آنے کی اس میں قوت ہی نہ تھی۔

میں نے پوچھا: اب یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیا کرتی ہو؟ کہا: یہ سب دیکھتے ہم اہل ایمان کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہاڑ پر بس رکھا ہے، اب ہم سفارش کرنے کے لیے آپ لوگوں کی تشریف آوری کے منتظر ہیں۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اب جب میری نیند کھلی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، اور میرا پورا زاویہ حیات بدلا ہوا تھا۔ (۲)

(۱) سورہ حمدید: ۷۶۔۷۵۔

(۲) الکبار: ارجع: ۷.....التواہیں: ارجع: ۵.....الرواج عن اقتراف الکبار: ارجع: ۳۲۶.....الزہر الفائح فی ذکر من تقریبہ عن الذنوب والقبائح: ارجع: ۱۱۳.....تذكرة الاولیاء مترجم: ۲۹۵۔۲۸

☆ لوگ بیماری کے ڈر سے غذا چھوڑ دیتے ہیں؛ مگر عذاب کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتے اے۔

خود غرضی سے توبہ

حضرت مالک بن دینار دمشق میں حضرت امیر محاویہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ کوئی صورت الٰہی پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنادیا جائے؛ چنانچہ آپ نے اعتکاف کیا اور سال بھر اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں کہ ہر شخص آپ کو ہمہ وقت نمازیں میں مشغول دیکھتا لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔

ایک سال کے بعد جب آپ مسجد سے برآمد ہوئے تو ندائے غیبی آئی کہ ماں کک تجھے اب اپنی خود غرضی سے توبہ کر لینی چاہیے، چنانچہ ایک سال تک اپنی خود غرضی نامہ عبادت و ریاضت پر مجھے شدید رنج اور شرمندگی ہوئی۔ پھر آپ نے اپنے قلب کو ریا اور غرض سے خالی کر کے خلوصِ نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی تو صحیح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر لوگوں کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا جمع کھڑا ہے جو آپس میں رائے مشورہ کر رہا ہے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے؛ لہذا اس شخص کو متولی مسجد بنادیا جائے۔

اس فیصلے پر متفق ہو کر جب پورا جمع آپ کے پاس پہنچا اور باہمی متفقہ فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار! میں ایک سال تک ریا کارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو جائے؛ مگر ایسا نہ ہوا اب جب کہ میں صدق دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے آپنچے اور میرے اوپر یہ بارڈانا چاہتے ہیں؛ لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب عہدہ تولیت قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا، یہ کہہ کر پھر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔

ایک مرتبہ آپ کسی کشتی میں محوسف تھے کہ آپ پرموتی چرا لینے کا الزام تراشا گیا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آنا فانہ ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک ایک موتی لے

☆ دوسروں سے برا سلوک کرنے سے پہلے یہ سوچیے کہ اگر آپ خود برے سلوک کا ٹھاکر ہوتے تو کیا ہوتا!

کر پانی کی سطح پر آگئیں۔ حضرت مالک بن دینار نے ایک مجھلی کے منہ سے موٹی کا دانہ لے کر چوری کا الزام تراشنے والے کو دے دیا اور خود کشتنی سے نکل کر سطح آب پر چلتے ہوئے کنارے پر پہنچ گئے۔

آپ کا مشہور قول ہے :

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ عَلَيِّ الْإِخْلَاصُ فِي الْأَعْمَالِ . (۱)

یعنی میرے نزدیک اعمال میں سب سے زیادہ پیار اعمل، اخلاص ہے۔

گویا کوئی عمل، عمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں خلوص کی شمولیت نہیں ہوتی۔ خلوص کو عمل کے ساتھ وہی نسبت ہے جو روح کو تن کے ساتھ۔ تن بغیر روح پھر ہے اور عمل بغیر خلوص کھیل۔ خلوص، عمل باطن ہے اور طاعت، عمل ظاہر۔ ظاہر باطن سے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے اور باطن کی قیمت ظاہر پر مختصر ہے۔ چنانچہ اگر کوئی ہزار سال بھی خلوصِ دل کی پروش کرے اور اس کے اعمال ظاہر میں خلوص نمایاں نہ ہو تو اس کا خلوص بے معنی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی ہزار سال عمل ظاہر میں مصروف رہے اور اس کا دل خلوص سے خالی ہو تو اس کے عمل کو شامل عبادت نہیں سمجھا جا سکتا!

حضرت مالک بن دینار کی خداخوندی کا عالم یہ تھا کہ آپ جب سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی قراءت کرتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت، قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا؛ کیوں کہ اس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ! ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھہ ہی سے مدد مانگتے ہیں حالانکہ ہم تو محض نفس کے پچاری ہیں اور لوگوں سے مدد کے متمنی۔

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا کہ ایک پرانی قمیص پہنے معموم و پریشان کھڑا رورہا ہے اور جسم سے پسینہ بھا جا رہا ہے

(۱) شفا الحجوب مترجم: ۱۲۳۶۱۲۳

☆ شمشاد نب کے سارے میں پناہ لینے سے اوپر مقام نہیں ملتا۔

جب کہ موسم سردی کا تھا۔ تجھ سے فرمانے لگے: صاحزادے کیوں رور ہے ہوا اور اس سردی میں یہ پسینہ کیسا؟ نوجوان نے کہا: حضرت! اس جگہ مجھ سے ایک مرتبہ گناہ سرزد ہو گیا تھا، جب بیہاں آیا تو گناہ یاد آگیا، پھر کیا تھا! اللہ کے خوف سے ندامت و حیا کا اس قدر غلبہ ہوا کہ یہ کیفیت ہو گئی۔

عجز و انكسار کا عالم

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

وَاللَّهُ لَوْ كَانَ النَّاسُ يَشْمُونَ رِوَايَةَ الْمُعَاصِيِّ كَمَا أَشْمَهَا مَا اسْتَطَاعُ أَنْ يَجْعَلْ سُنْنَيْ أَحَدٍ مِّنْ نَنْنَ رِيَحِي . (۱)

یعنی قسم بخدا! اگر لوگ میری طرح گناہوں کی بدبو محسوں کرپاتے تو میرے (گناہوں کی) بدبو کی وجہ سے کوئی میرے ساتھ بیٹھنا گوارانہ کرتا!۔

اللہ ان لوگوں پر حتمتیں برسائے، عظیم ہوتے ہوئے بھی ان کے ہاں دعویٰ نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ خود کو سب سے کم ترویجی سمجھتے رہتے تھے۔ حق کہا ہے کسی شاعرنے فروتنی است دلیل رسید گاں کمال ☆ کہ چوں سوارہ منزل رسد پیادہ شود یعنی اہل کمال کی نشانی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہو گا کہ سوار جب منزل مقصد پر پہنچتا ہے تو پیادہ ہو جاتا ہے۔

حضرت عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت مالک بن دینار فرماتے تھے :

يَقُولُ النَّاسُ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ زَاهِدٌ إِنَّمَا الزَّاهِدُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ الَّذِي أَتَى الدُّنْيَا فَتَرَكَهَا . (۲)

(۱) فیض القدری: ۱/۵۵۷..... بریق محمدیہ فی شرح طریقہ محمدیہ و شریعت نبویہ: ۳۷۳/۲۔

(۲) منذر احمد بن حنبل: ۱۱۸/۳۵..... حدیث: ۲۱۱۲۳..... جامع العلوم والحكم: ۲۷/۳۱..... تذكرة الحفاظ: ۱۲۰/۱..... سیر اعلام العباد: ۱۳۲/۵..... تاریخ الاسلام ڈبی: ۳۳۱/۲..... البدریyah و النہایہ: ۲۲۷/۹..... موسوعۃ اطراف الحدیث: ۱/۲۹۸۱۹..... التقویہ الموصوی للعلاء حدیث: ۲۹۸۱۹: ۰.....

☆ نید کو عبادت بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ باوضوسو جایا کریں۔

یعنی لوگ کہتے ہیں کہ مالک بن دینار زاہد اور دنیا بیزار شخص ہے؛ حالاں کہ جی بات یہ ہے کہ زاہد تو عمر بن عبد العزیز ہیں کہ دنیا ان کے پاس خود چل کر آئی مگر آپ نے بے پرواہی سے اُسے دھنکار دیا (اور اپنا دامن حیات اُس کی الاشتوں سے پاک رکھا)۔

حضرت جعفر ضیغمی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار کے پیچھے ایک کتے کو جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا: اے ابو حیان! یا آپ کے تعاقب میں کون ہے؟، فرمایا: (ہے تو یہ کتا مگر) خیر من جلیس السوء . یہ برے دوستوں سے تو بہتر ہی ہے۔

حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایک مردے کو دفن کر رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے اور قبر کے اندر جھاٹک کر دیکھنے لگے۔ پھر اچانک رونا شروع کر دیا اور اتنا رونے کے عش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ لوگ مردے کو دفن کرنے کے بعد آپ کو چار پائی پر ڈال کر گھر لے آئے۔

کچھ دیر بعد حالت سنبھلی اور ہوش میں آئے تو لوگوں سے فرمایا: اگر مجھے یہ خدا شہنشاہ ہوتا کہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے اور گلی کے بنچے میرے پیچھے شور مچائیں گے تو میں پھٹے پرانے کپڑے پہنتا، سر میں خاک ڈالتا اور بتی بستی گھوم کر لوگوں سے کہتا: لوگو! جہنم کی آگ سے بچو۔ اور پھر لوگ میری یہ حالت دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتے۔

پھر جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو اپنے شاگردوں کو یہ وصیت فرمائی کہ میں نے تمہیں جو کچھ سکھایا، اُس کا حق ادا کرنا اور جب میں مر جاؤں تو میری پیشانی پر (بغیر روشنائی کے) یہ مالک بن دینار ہے جو اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے۔ پھر مجھے قبرستان لے جانے کے لیے چار پائی پر مت ڈالنا بلکہ میری گردن میں رسی ڈال کر ہاتھ پاؤں باندھ کر اس طرح لے جانا جیسے کسی بھاگے ہوئے غلام کو باندھ کر منہ کے بل گھٹیتے ہوئے اُس کے آقا کے پاس لے جایا جاتا ہے اور قیامت کے دن جب مجھے قبر سے

☆ غم کتنا ہی عگین ہو نیند سے پہلے نک ہوتا ہے۔

اٹھایا جائے تو تین چیزوں پر غور کرنا، پہلی چیز یہ کہ اس دن میرا چہرہ سیاہ ہوتا ہے یا سفید، دوسری چیز یہ کہ جب اعمال نامے تقسیم کیے جارہے ہوں تو مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ جب میں میزانِ عدل کے پاس کھڑا کیا جاؤں تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا گناہوں کا؟۔

یہ کہہ کر آپ زار و قطار رونے لگے اور کافی دریتک گریہ وزاری کرنے کے بعد فرمایا: کاش! میری ماں نے مجھے جنابی نہ ہوتا کہ مجھے قیامت کی ہولنا کیوں اور ہلاکتوں کی خبر ہی نہ ہوتی اور نہ ہی مجھے اُن کا سامنا کرنا پڑتا۔

پھر جب رات کا وقت ہوا تو آپ کی حالت غیر ہونے لگی، اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ مالک بن دینار! قیامت کی ہولنا کیوں اور دہشتوں سے امن پا گیا۔

آپ کے ایک شاگرد نے یہ آواز سنی تو دوڑ کر آپ کے پاس پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ آپ پر نزع کی کیفیت طاری ہے اور آپ انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کر کے کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہیں، آپ نے آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور پھر اُس کے ساتھ ہی آپ کی روح نفس غصري سے پرواز کر گئی۔ (۱)

مرنے کے بعد کیا گزری؟

برادر حزم حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار کو خواب میں دیکھ کر پوچھا: اے ابو یحییٰ! کاش مجھے معلوم ہو پاتا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: میرے سامنے میرے بہت سے گناہ پیش ہوئے؛ مگر اللہ کے ساتھ میرے حسن ظن نے سارے گناہوں کو غلط کر دیا۔ (۲)

(۱) حکایات الصالحین: ۲۸۔

(۲) مجموع اوصط طبرانی: ۱۵۱/۲: ۶۵۲.....الزہد الکبیر تہجی: ۱/۱: ۱۷۱ حدیث: ۱۶۸.....موسوعۃ اطراف الحدیث: ۱/۱: ۱۳۲۸: ۱۳۲۸۳ حدیث: ۱۳۵۸۰/۳.....موسوعۃ اختری: ۱/۱: ۱۳۸۷: ۱۳۶۸۸/۲: ۳۶۸۸۲۔

☆ کسی سے مشورہ لینا بائنیں؛ مگر کسی کے مشورے پر سوچے سمجھے بغیر عمل کرنا بارا ہے۔

حضرت مہدی بن میمون فرماتے ہیں کہ جس شب حضرت مالک بن دینار کا انتقال ہوا۔ میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے: معلوم ہونا چاہیے کہ آب مالک بن دینار کیے از باشندگان بہشت ہو چکا ہے۔^(۱)

حضرت اسد بن موی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ سبز لباس زیب تن کیے ایک اونٹ پر بیٹھے زمین و آسمان کے درمیان اڑائیں بھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا:

بِاَبْدِ اللّٰهِ، كَيْفَ كَانَ قَدْوَمُكَ عَلٰى رَبِّكَ؟ قَالَ: قَدْمٌ عَلٰى رَبِّي وَأَكْرَمٌ نِي وَكَلْمٌنِي، وَقَالَ لَيْ: سَلْنِي أَعْطِيْكَ، وَتَمْنِيْ عَلٰيْكَ أَرْضِيْكَ، فَقَلَّتْ: يَا رَبَّ أَسْتَلِكَ الرَّضَا عَنِيْ، فَقَالَ: قَدْ رَضِيَتْ عَنِكَ .^(۱)

یعنی اے اللہ کے بندے (مالک)! اللہ کی جناب میں تیری پیشی کیسے ہوئی؟ کہا: اللہ نے بڑی عزت دی اور مجھے شرف، ہم کلامی سے سرفراز فرمایا؛ ساتھ ہی یہ اجازت بھی دی کہ مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے محروم نہ کروں گا، اور جو چاہے تنا کر میں اُسے پایہ تیکھیں تک پہنچا دوں گا۔ میں نے عرض کیا: اے پروردگار! میری خواہش میں یہی ہے کہ تیری رضاہی مشیرے شامل حال رہے۔ فرمایا: ٹھیک ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔

شوقي مناجات کارنگ

حضرت مالک بن دینار انتقام کلام پر اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے :

- (۱) المنامات ابن ابی الدنيا: ۵۲/۱ حدیث: ۳۳..... الرسالة القشيریہ: ۲۳/۱..... الروح: ۲۳/۱..... موسوعۃ التحریق: ۱۹۱۱۳ حدیث: ۱۱۱: ۹۷..... البخاری و جواہر الحکم: ۳۶/۱.....
- (۲) المنامات ابن ابی الدنيا: ۱۳۹/۱ حدیث: ۱۰۳..... الرسالة القشيریہ: ۱۷۸/۱.....
- (۳) الراہ رالقاص فی ذکر من تنزہ عن الذنوب والقبائل: ۱۹/۱.....

☆ فرعون کی سی زندگی گزار کر حضرت موی کی سی عاقبت کی توقع رکھنا پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے!

اللَّهُمَّ أَحِينَا صادقِينَ وَأَمْتَنَا صادقِينَ وَابْعَثْنَا صادقِينَ وَاجْزَنَا
يَوْمَ الْلِقَاءِ كَمَا تَجْزَى عِبَادُكَ الصادقِينَ . (۱)

یعنی اے اللہ! ہمیں سچا بنا کر زندہ رکھ۔ سچائی کے عالم میں موت عطا فرم۔
صادقین کی معیت میں ہمیں دوبارہ اٹھا۔ اور عرصہ مُشر میں اپنے صادق و نیک
بندوں کی مانند ہمیں اجر و صلح عطا فرم۔

حضرت مالک بن دینار کو اپنی دعائیں یہ کہتے ہوئے بھی سنایا :

اللَّهُمَّ أَقْبِلُ بِقُلُوبِنَا إِلَيْكَ حَتَّى نَعْرُفَكَ حَسَنًا، وَحَتَّى نَرْعَى
عَهْدَكَ، وَحَتَّى نَحْفَظَ وصِيتَكَ حَسَنًا، اللَّهُمَّ سُونَّةَ سِيمَا
الْأَبْرَارِ، وَالْبَسْنَا لِبَاسُ التَّقْوَى، اللَّهُمَّ إِنَا نَتُوبُ إِلَيْكَ قَبْلَ
الْمَمَاتِ، وَنُلْقِي بِالسَّلَامِ قَبْلَ الْلَّزَامِ، اللَّهُمَّ انْظُرْ إِلَيْنَا مِنْكَ نَظَرَةً
تَجْمَعُ لَنَا بِهَا الْخَيْرَ كُلَّهُ، خَيْرُ الْآخِرَةِ وَخَيْرُ الدُّنْيَا - ثُمَّ يَقْفَعُ عَدْ
كَلَامُهُ هَذَا وَيَقُولُ : يَحْسِبُونَ أَنِّي أَعْنِي بِخَيْرِ الدُّنْيَا الْدِينَارِ وَ
الدِّرَاهِمِ لَا، إِنَّمَا أَعْنِي الْعَمَلُ الصَّالِحُ - حَتَّى الْقَاتِكَ يَوْمُ الْلِقَاءِ وَ
أَنْتَ عَنِّا رَاضٍ، رَغْبَةٌ وَرَهْبَةٌ إِلَيْكَ يَا إِلَهُ السَّمَاوَاتِ وَإِلَهُ الْأَرْضِ . (۲)
یعنی اے پروردگار! ہمارے دلوں کی لگام اپنی طرف پھیر دے تاکہ ہمیں صحیح
معنوں میں تیری معرفت نصیب ہو سکے، ہم تیرے عہدو بیان سے پورے طور پر
عہدہ برآ ہو سکیں، اور تیرے احکام و اوامر کی اچھی طرح تعمیل کر سکیں۔
اے مولا! ہماری جیبنوں کو پیکر ان طاعت کی علامتوں سے داغ دے۔ ہمیں
تقویٰ و طہارت کی پوشش میں مجبوس فرمادے۔

(۱) الجامع لأخلاق الرؤوف وآدابه المأجم: ۱۲۵/۳: حدیث: ۱۳۱۵۔

(۲) حلیۃ الاولیاء: ۳۲۵۸۔

☆ دولت مند انسان میں اگر خوف خدا نہ ہو تو اس کی عاقبت فرعون جیسی ہوتی ہے۔

اے باری تعالیٰ! ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں قبل اس کے کہ موت
کا چنگل ہمیں اپنی گرفت میں لے۔ اور امن و سلامتی کے ساتھ تیرے شوق
ملاقات کا سفر کث جائے قبل اس کے کہ ہمیں پابند سلاسل کیا جائے۔

خداوند! ہم پر خاص نگاہ کرم فرماؤر ہمیں دنیا و آخرت کی ساری خوبیاں عطا
فرما۔ یہاں پہنچ کر آپ رک جاتے اور وضاحت فرماتے ہوئے کہتے کہ کوئی یہ نہ سمجھے
کہ دنیا کی بھلائی سے میری مراد در ہم دینار ہیں بلکہ میرا مقصد عمل صالح ہے۔ تاکہ
جس دن تیری ملاقات ہو تو ہم سے راضی و خوش ہو۔ اے زمین و آسمان کے
معبدو! خوف و رجا کی کیفیت سے سرشار ہو کر ہم تجھ سے التجا کر رہے ہیں۔

پھر آپ ہلکا سارا ودیتے تو آپ کے ساتھ ہماری آنکھیں بھی بھیگ جاتیں۔

حضرت مالک بن دینار یوں بھی دعا فرمایا کرتے تھے :

اللّٰهُمَّ أَنْتَ أَصْلَحُ النَّاسَ إِنْ تَأْمُنَنَا حَتَّىٰ تَكُونَ صَالِحِينَ۔
مولا! صالحین کو شرف صالحیت بخشنے والا تو ہے؛ لہذا تو ہماری بھی اصلاح
فرمادے تاکہ ہم بھی صالحین کی صفت میں شامل ہو جائیں۔

دینار کی توجیہ نفس

حضرت مالک بن دینار آیت کریمہ ”وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمُنَنَّ بِدِينَارٍ“ میں دینار کی
وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے (اور ایک اعتبار سے اپنے علم کی توجیہ نفس کرتے ہوئے)
فرماتے ہیں :

إِنَّمَا سَمِيَ الدِّينَارُ لِأَنَّهُ ذِيْنٌ وَنَارٌ . وَقَالَ: مَعْنَاهُ: أَنَّهُ مِنْ أَخْذِهِ
بِحَقِّهِ فَهُوَ دِينَهُ، وَمِنْ أَخْذِهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ فَلِهُ النَّارُ . (۲)

(۱) التوبه ابن أبي الدنيا: ۱/۱۲۶ حدیث: ۲۷۔

(۲) تفسیر ابن کثیر: ۲۰/۲..... تفسیر ابن أبي حاتم: ۳/۵۰..... تفسیر روح المعانی: ۳/۹۶۔

☆ قول کر بولنا تو درستار ہمیں تو بول کر تو لنا بھی نہیں آتا۔

یعنی دینار کو دینار کہنے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ دین، اور نارے سے مشتق ہے۔
 جس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے دینار کو اپنے حقوق و فرائض کی آدائیگی کے لیے
 استعمال کیا تو اس نے صحیح معنوں میں اپنا قرض اٹا ر دیا۔ اور جس نے اس کے
 ذریعہ اپنے حقوق کی پامالی کی اور اس کا استعمال کہیں اور کیا تو سمجھو کر وہ اس کے
 لیے (سامان و بال اور) باعث نارب گیا۔

حضرت شیخ فرید الدین عطاء دینار کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک
 مرتبہ آپ کسی کشتی میں سفر کر رہے تھے، منجدہ ہمار میں پہنچ کر جب ملاح نے کرایہ طلب کیا تو
 فرمایا کہ میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔

یہ سن کر اس نے بدکلامی کرتے ہوئے آپ کو اتنا زد و کوب کیا کہ آپ کو غش آگیا،
 آپ جب ہوش میں آئے تو ملاح نے دوبارہ کرایہ مانگتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کرایہ آدا نہ
 کیا تو میں تمہیں اس دریا کی موجودوں کی نذر کر دوں گا۔

پیان کیا جاتا ہے کہ عین اُسی لمحے کچھ مجھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی
 کے اوپر کشتی کے پاس آئیں اور آپ نے ایک مجھلی کے منہ میں سے دینار لے کر کرایہ آدا کر دیا۔
 ملاح یہ دیکھ کر قدموں میں گر پڑا، اور آپ کشتی سے نکل کر پانی کی سطح پر آگئے اور پانی میں پلتے
 ہوئے نظروں سے او جمل ہو گئے۔ اسی وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔^(۱)

بغیرِ عمل، علم بے سود ہے

وَ أَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبْعَثُهُ الشَّيْطَانُ

فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ (سورہ اعراف: ۱۷۵)

(۱) تذكرة الاولیاء مترجم: ۲۸۔

☆ انسانوں کے وسیع سندوں میں ہر آدی ایک جزیرے کی طرح لگتا ہے۔

ترجمہ: اور آپ انھیں اس شخص کا قصہ (بھی) سنادیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں پھر وہ ان (کے علم و نصیحت) سے نکل گیا اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ مگر اہوں میں سے ہو گیا۔

حضرت مالک بن دینار اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ علماء بنی اسرائیل کا ایک مستجاب الدعوات شخص تھا۔ اس کی دعا میں کبھی رد نہیں ہوتی تھیں، اسی لیے مشکل گھریوں میں اُسے آگے بڑھا کر دعا میں کروا یا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بادشاہ مدین کے پاس اُسے دعوت حق کا پیغام لے کر بھیجا، تو وہ بادشاہ دین موسوی کیا قبول کرتا اُس نے اپنی بے پایاں عطا و بخشش سے اس عالم کے دین کو بھی خرید لیا؛ چنانچہ اس شخص نے حضرت موسیٰ کے دین کا قلادہ اُتار کر اُس بادشاہ کے مذہب کو زیب گلوکر لیا۔^(۱)

(اس شخص کے نام کے سلسلہ میں مختلف آراء ہیں: عبداللہ بن مسعود نے بلعم بن ابر۔

حضرت عبداللہ بن عباس نے صہبی بن راہب۔ سفیان بن عینہ نے بلعم بن باعر، اور ابن جریر نے بلعام وغیرہ بتایا ہے)، واللہ اعلم بالصواب۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره علمه، و إذا طلب العلم
لغير العمل زاده كبرا .^(۲)

یعنی جب کوئی بندہ علم کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اُس کو رنگ عمل دے، تو اس علم کے باعث اُس کے اندر تواضع و اکسار پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی علم کو عمل کے لیے نہیں حاصل کرتا (بلکہ صرف تفریغ طبع، حصول جاہ و منصب یا دنیا کمانے کے لیے کرتا ہے) تو وہ علم اس کے اندر کبر و نخوت کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔

(۱) ابن کثیر: ۳/۵۰.....ابن ابی حاتم: ۲۸۳/۶.....روح المحتی: ۲/۳۷.....تفسیر درمنثور: ۳۷/۰/۳۔

(۲) شعب الایمان شیقی: ۳۲۲/۳.....حدیث: ۹/۷۷.....اقتفاء العلم اصل خطیب بغدادی: ۱/۳۳ حدیث: ۳۱۔

☆ اُس اندر ہے کا کیا علاج! جو قدم پر ٹھوک رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اندر حامانے کے لیے تیار نہیں۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

العالِمُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ بِعِلْمِهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّفَا إِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْقَطْرُ

(زلق عنہ۔ ۱)

یعنی بے عمل عالم کی مثال اس چکنے پھر کی سی ہوتی ہے کہ جس پر پانی کا کوئی قطرہ کبھی نکلتا ہی نہیں۔

فَقَدْ أَصْبَحَتْ مِنْهُمْ أَمْوَالًا أَنْتَ تَأْتِيهَا . (۲)
یا وَاعْظَمُ النَّاسِ قَدْ أَصْبَحَتْ مِنْهُمْ إِذْ عَبَتْ مِنْهُمْ أَمْوَالًا أَنْتَ

لیعنی اے لوگوں کو پند و فضائے کرنے والے عالم! جن چیزوں کو معیوب بتا کر تو لوگوں کو ان سے منع کر رہا ہے تیرا دامن تو خود ان سے آلو دہ ہے۔ بھلا بتاؤ یہ کسی بڑی تہمت اور کتنا بڑا بہتان ہے!۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِنَفْسِهِ فَالقليلُ مِنْهُ يَكْفِي، وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ
لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَالكثيرُ مِنْهُ كَفِيرٌ . (۳)

لیعنی جس نے خود اپنی ذات (کی اصلاح) کے لیے علم حاصل کیا تو اس کے لیے تھوڑا سا علم بھی بہت ہے۔ اور جس نے لوگوں کی ضرورتوں (کی تکمیل) کے لیے تحصیل علم کیا تو (اسے معلوم ہونا چاہیے کہ) لوگوں کی ضرورتیں اتنی زیادہ ہیں کہ (کبھی بھی وہ پوری نہیں کی جاسکتیں)۔

(۱) اقتداء العلِمَ لِعَلِمٍ خطيب بغدادي: ۹۶/۱ حدیث: ۹۳..... عيون الاخبار: ۱۸۲/۱..... العقد الفريد: ۱۲۱/۱۔

(۲) فتح القدر: ۱۰۲/۱۔

(۳) الرہل لأحمد بن حنبل: ۳۲۶/۳ حدیث: ۱۹۱۳..... جامع بيان العلم وفضله: ۱۲۳/۲ حدیث: ۲۲۲..... عيون الاخبار: ۱۸۷/۱..... العقد الفريد: ۱۲۳/۱..... نشر الدر: ۳۱۰..... الجالسو وجاهرا علم: ۳۰۱/۱۔

☆ گلب کا نام خوبیوں کے پروں پر سفر کرتا ہے۔ اور ذات اپنی صفات کے حوالے ہی سے پہچانی جاتی ہے!۔

عجائب قدرت سامان صد عبرت

حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی کے ذریعہ مطلع فرمایا :

یا موسیٰ، اتخاذ نعلین من حديد و عصا، ثم سح في الأرض، و
اطلب الآثار والعبير، حتى تتحقق النعالان و تكسر العصا . (۱)

یعنی اے موسیٰ! آہنی جوتے پہنواور ہاتھ میں ایک عصا لے کر روے زمین کی سیر کو کل جاؤ، اور اس وقت تک قدرت کے آثار و نشانات اور مقامات عبرت و نصیحت کی تلاش و جستجو جاری رکھو، جب تک کہ تمہارے جوتے پھٹ نہ جائیں اور تمہاری لاٹھی ٹوٹ نہ جائے۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مٹی کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک بچے کے پاس سے گزرا تو کبھی اس کے چہرے پہنسی کے آثار ہو یا ہو جاتے اور کبھی اس کی آنکھیں اٹھک بارہ ہو جاتیں۔

کہتے ہیں کہ تو میں نے سوچا کہ اس کو سلام کروں مگر میرے جی نے اس کی اجازت نہ دی۔ میں نے نفس سے کہا: تجھے یاد نہیں رہا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کو بھی سلام فرمایا کرتے تھے؛ لہذا میں نے نفس کی ایک نہ سنبھالی اور اس بچے کو سلام کر دیا۔ وہ جواب میں کہتا ہے: اے مالک بن دینار اور آپ پر بھی اللہ کی رحمت و برکت اور سلامتی نازل ہو۔

میں نے پوچھا: تم نے مجھے کیسے کیسے پہچانا؟ حالاں کہ تمہیں مجھے دیکھنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ کہا: میں نے آپ کو اسی وقت پہچان لیا تھا جب عالم ارواح میں ہماری روحیں یکجا ہوئی تھیں، اللہ نے اسی وقت ہماری اور آپ کی روح کے درمیان شناسائی کر دی تھی۔

(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲۰۰۲ - ۵/۳۸۸ تفسیر آلوی: ۱۳/۸۲

☆ خاوند کو غلام بنانے والی بیوی آخر غلام ہی کی تو بیوی کہلاتی ہے۔ دانا بیوی خاوند کو سرتاج بناتی ہے اور خود ملکہ کہلاتی ہے۔

میں نے اس سے پوچھا: اچھا یہ بتاؤ عقل اور نفس کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے؟۔
بچے نے کہا: (فرق تو آپ نے ابھی ملاحظہ کرہی لیا ہوگا کہ) آپ کے نفس نے تو آپ کو سلام سے منع کر دیا تھا؛ مگر آپ کی عقل نے آپ کو سلام کرنے پر برا بھینہ کیا۔

میں نے پوچھا: (اتنے خردمند ہو کر) تم اس مٹی کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو؟، تو وہ کہنے لگا: دراصل ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور پھر اسی کی طرف پلٹ کر جانا بھی ہے، (لہذا اس سے بہتر دوست اور کون ہو سکتا ہے!)۔

میں نے پوچھا: (باتوں بات کے درمیان) کبھی کبھی تمہارے ہنس دینے اور پھر رونے لگنے کا کیا مطلب ہے؟۔ کہا: اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ جب مجھے اپنے پرو ردا گار کا عذاب یاد آتا ہے تو پلکیں خوفِ عذاب سے بھیگ جاتی ہیں اور جب اپنے رب کی عطا و رحمت کا تصور دروں دل جا گتا ہے تو مارے خوشی کے مسکرا پڑتا ہوں۔

میں نے پوچھا: بیٹھ! اتنی معمولی سی عمر میں تم نے کون سے ایسے گناہ کر لیے ہیں کہ تمہیں ان کا خوف کھائے جا رہا ہے؟۔ کہنے لگا: اے مالک! ایسا نہ فرمائیں؛ کیوں کہ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ اسی جان جب چولہا جلاتی ہیں تو اس میں بڑی لکڑیوں کے ساتھ چھوٹی لکڑیاں بھی جھونک دیتی ہیں۔ (۱)

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران مجھے سخت پیاس لگی تو میں پانی کی تلاش میں اپنے راستے سے ہٹ کر ایک وادی کی جانب چل پڑا۔ اچانک میں نے ایک خوفناک آواز سنی، میں نے سوچا: شاید! یہ کوئی درندہ ہے جو میری طرف آ رہا ہے۔ چنانچہ میں بھاگنے ہی والا تھا کہ پہاڑوں سے کسی پکارنے والے نے مجھے پکار کر کہا: اے انسان! ایسا کوئی معاملہ نہیں جس طرح تم سمجھ رہے ہو، یہ تو اللہ عز و جل کا ایک ولی ہے جس نے شدتِ حرثت سے ایک لمبی سانس لی تو اس کی آواز بلند ہو گئی۔

(۱) تفسیر روح الہمیان: ۱۳۸/۱

☆ اگر آپ نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا تو یقین کر لیں کہ آپ نے زندگی کا سب سے بڑا فن سیکھ لیا۔

جب میں اپنے راستے کی جانب واپس مڑا تو ایک نوجوان کو عبادت میں مشغول پایا۔ میں نے اسے سلام کیا اور اپنی پیاس کا بتایا تو اس نے کہا: اے مالک! اتنی بڑی سلطنت میں تجھے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا۔ پھر وہ چٹان کی طرف گیا اور پاؤں کی ٹھوکر مار کر کہا: اس ذات کی قدرت سے ہمیں پانی سے سیراب کر جو بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ فرمانے پر قادر ہے۔

اچانک چٹان سے پانی ایسے بہنے لگا جیسے چشمہ سے بہتا ہے۔ میں نے جی بھر کر پینے کے بعد عرض کی: مجھے ایسی چیز کی نصیحت فرمائیے جس سے مجھے لفظ ہوتا رہے۔ تو اس نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: تھائی میں اللہ عزوجل کی عبادت میں مشغول ہو جائیے، وہ آپ کو جنگلات میں پانی سے سیراب کر دے گا۔ اتنا کہہ کروہ اپنے راستے پر چلا گیا۔ (۱)

غور کا سر نیچا

حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام دلاؤکھ انسان اور دلاؤکھ جنات کی معیت میں اڑاں کھٹولا پر سوار ہو کر محو پرواہ ہوئے، اور اتنا اور پر پہنچ گئے کہ آسمان میں فرشتوں کی تسبیحیں سنائی دینے لگیں۔ پھر اُترنا شروع کیا تو اس قدر نیچے آگئے کہ سمندر کا پانی آپ کے قدموں سے مس ہونے لگا، اتنے میں کسی ہاتھ غبی نے آواز دی :

لو کان في قلب صاحبکم مثقال ذرة من كبر لخسف به أبعد
مما رفع . (۲)

(۱) الرؤوف الفتاوى فى المواقف والمرائق مترجم: ۳۲۰، ۳۱۹۔

(۲) تفسیر ابن کثیر: ۶/۳۳۶..... موسوعۃ اطراف الحدیث: ۱/۶۸۷، ۲/۱۸۵۶۸۸..... التوبیب الموضوغ لآل حدیث: ۱/۲۲۳۸۷۔

☆ عام آدمی اپنی ذات کے لیے بھی رحمت نہیں ہوتا اور حضور ﷺ کائنات کے لیے باعث رحمت ہیں!۔

یعنی اگر تم میں سے کسی کے دل میں رائی کے دانہ برا بر بھی کبر و خوت کی بوہوگی

تو اس سے کہیں زیادہ دھنسا دیا جائے گا جتنا کہ اسے بلند کیا گیا تھا۔

حضرت اصمی فرماتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ مہلب بن ابی صفرہ حضرت مالک بن دینار کے پاس سے اکڑتے اور اتراتے ہوئے گزرا۔ آپ نے فرمایا: کیا تجھے پتا نہیں کہ اس طرح چنانا اچھی بات نہیں؛ الایہ کہ تم کسی معرکہ کا رزار میں ہو۔

مہلب نے کہا: شاید آپ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: میں تمہیں حقیقی اچھی طرح جانتا ہوں شاید تم خود اپنے آپ کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتے! مہلب نے پوچھا: اچھا چلیں بتائیں کہ آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

اما أولک فنطفة مذرة، وأما آخرك فجيفة قدرة، وانت

بینهم ما تحمل العذرة۔ (۱)

یعنی تیری تخلیق کا آغاز پکانے والی منی کے ایک قطرے سے ہوا، اور تیری تخلیق کا اختتام بد بودار جش پر جا کر تمام ہوا، اور تو ان دونوں نجس مقام کے درمیان بے کسی کے عالم میں پڑا ہوا تھے۔

یہ سن کروہ معدرت خواہانہ کہنے لگا: یقیناً آپ نے مجھے خوب پہچانا۔

نگاہِ مرِ دِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر یہ

ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرنے لگا: اے ابویحیٰ! میری بیوی کوئی چار سال سے ہمیں (اور پُر امید) ہے؛ لیکن اب اُس کا کرب و اضطراب حد سے سوا ہوا جا رہا ہے، خدار اُس کے لیے دعا فرمادیجیے۔

(۱) حلیۃ الاولیاء: ۳۸۷۔

☆ اگر آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو ہر احمد شہ سوار کھلائے گا۔

یہ سن کر حضرت مالک بن دینار کو الحسن سی ہوئی، قرآن بند کیا اور جھنجھلاتے ہوئے فرمایا: اس قوم نے ہمیں جیسے کوئی نبی سمجھ لیا ہوا! (کہ ہر چیز کی دعا کے لیے بھاگے چلے آتے ہیں) پھر آپ نے کچھ تلاوت فرمائی، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھادیا:

اے پروردگار! اگر اس عورت کا شکم ریاح (گیس) سے بھر گیا ہو تو اسے فوراً نکال دے۔ اور اگر اس کے پیٹ میں کوئی لڑکی ہو تو اسے لڑکے سے تبدیل فرمادے؛ کیوں کہ محو و اثبات کے دفتر پر تجھے قدرت کاملہ حاصل ہے، اور تیرے پاس اُم الکتاب ہے۔ پھر جب حضرت مالک بن دینار نے اپنا دست مبارک بلند کیا تو لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔

انتنے میں ایک قاصد آ کر اس شخص سے کہتا ہے: جاؤ اپنی بیوی کی خبر لو۔ چنانچہ وہ شخص گھر پہنچا۔ ابھی حضرت مالک نے اپنے ہاتھ نیچے بھی نہ کیے تھے کہ وہ شخص اپنی گود میں گھنٹھریا لے بالوں والا چار سال کا ایک لڑکا لیے باپ مسجد سے داخل ہوا، جس کے دانت برابر نکل آئے تھے لیکن ابھی تک اُس کی نال نہیں کٹی تھی۔ (۱)

یوں ہی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا: اے امیر المؤمنین! میں کوئی دوسال اپنی بیوی سے دور رہا، جب واپس آیا تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہ امید سے ہے۔ باہم مشورے سے یہ طے ہوا کہ اُس عورت کو پھر مار کر ہلاک کر دیا جائے۔

(۱) تفسیر قرطبی: ۹/۲۸۷.....اخواء البیان: ۲/۳۳۶.....سنن کبریٰ تیہقی: ۷/۲۲۳.....سنن دارقطنی: ۹/۱۵۵.....شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعۃ للاکانی: ۷/۳۳۶.....وفیات الاعیان: ۳/۳۹.....مرآۃ الجان و عبرۃ الیقظان فی معرفۃ حادث الزمان: ۱/۱۳۶.....اہی المطالب: ۱/۱۳۶.....موسوعۃ اطراف الحدیث: ۱/۱۳۵۴۹.....التوبیہ الموضعی للاحادیث: ۱/۱۳۵۴۹.....موسوعۃ اختریۃ: ۱/۱۹۲۹۵.....موسوعۃ اختریۃ: ۱/۱۹۲۹۶.....

☆ اگر مرتبہ جائے اور استعداد نہ ہو تو اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں!

حضرت معاذ بن جبل کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا: اے امیر المؤمنین! غلطی اس عورت نے کی ہے؛ لہذا اسے سکسار فرمائیں، مگر شکم مادر میں پڑے اس بچے کا کیا قصور ہے؟ آپ بچہ جننے تک اُسے مہلت دیں۔ چنانچہ اُس نے ایک بچے کو جنم دیا جس کے سامنے کے دونوں دانت نکل آئے تھے۔

اُس آدمی نے جب بچے کو غور سے دیکھا تو کہا کہ یہ تو مجھ سے کافی حد تک مشابہت رکھتا ہے، پھر مارے خوشی کے چیخ کر کہنے لگا: قسم بخدا! یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کا قضیہ سن کر حضرت عمر فاروق نے فرمایا: عورت تین اب معاذ سا بچہ جننے سے قاصر ہو گئیں۔ معاذ! اگر آج تم نہ ہوتے تو عمر توہاک ہو جاتا! (۱)

حضرت مالک بن دینار بصرہ کی گلی سے گزر رہے تھے، اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک شاہی کنیز اپنے ارڈر گرد خادماوں کا لاواں لشکر لیے بڑے جاہ و حشم اور ناز و تختر سے چلی آ رہی ہے۔ آپ اپنے فقیر ان لباس میں اُسے آواز دیتے ہوئے کہتے ہیں: کنیز! کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے؟ اس کنیز نے تمسخر کے انداز میں ہنستے ہوئے کہا کہ اگر میرا مالک بچنا بھی چاہے تو اے فقیر! تو مجھے خریدنے کی سکت رکھتا ہے؟۔ مفلس، فقیر غریب آدمی تیری حیثیت ہی کیا ہے جو مجھے خرید سکے!

حضرت مالک بن دینار کہنے لگے: کنیز! تو کیا ہے میں تجھ سے بہتر کنیز یں خرید سکتا ہوں۔ وہ نہ سپڑی، اور اس نے خادماوں کو حکم دیا کہ اس فقیر کو ساتھ لے لو، بادشاہ کے پاس چلتے ہیں۔ کنیز نے بادشاہ کے پاس جا کر سارا ماجرا سنایا۔ بادشاہ نے کہا: اُس فقیر کو میرے سامنے پیش کرو۔ حضرت مالک بن دینار پیش ہوئے۔

بادشاہ نے پوچھا: اے فقیر! اگر میں اپنی اس کنیز کو بیچوں بھی تو کیا تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟۔ حضرت مالک بن دینار کہنے لگے: ہاں! اس کی قیمت ہے ہی کیا، بس کھجور کی دوسری ہوئی گھٹلیاں ہی تو ہیں! میں تو اس سے اعلیٰ کنیز یں بھی خرید سکتا ہوں۔

(۱) تفسیر تربیتی: ۲۸۸/۹۔

☆ کسی تیکے کو بھی حقیر نہ سمجھیں؛ ورنہ آپ کی آنکھ میں پڑ جائے گا۔

بادشاہ نہس پڑا اور کہنے لگا: فقیر! تم نے اس شاہی کنیز کو اتنی بیکار کیوں سمجھا، اور اس کی اتنی معمولی قیمت کیوں لگائی؟۔

حضرت مالک بن دینار نے فرمایا: دراصل اس سودے میں عیب بہت ہیں۔ پوچھا: کیا عیب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: اگر یہ عطر و خوبصورہ لگائے تو اس سے بدبوآتی ہے، اگر یہ روزمنہ صاف نہ کرے، تو اس سے تضفیں اٹھنے لگتا ہے، اگر کنگھی چوٹی نہ کرے، اور تیل کا جل نہ لگائے، تو بال پر اگنده اور غبار آلود ہو جاتے ہیں، اگر اس کی عمر زیادہ ہو جائے تو تجویز ہے عاشق اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس میں غلطیں بھی ہیں، بجا تینیں بھی ہیں، اور آلود گیاں بھی۔ نیز اسے رنج والم بھی پیش آتے ہیں۔

مزید فرمایا کہ یہ تو میں نے چند ایک ظاہری عیب شمار کرائے ہیں، باہر خاطر نہ ہو تو باطنی عیوب بھی سن لو۔ یہ خود غرض ہے، اور بے وفا بھی بہت ہے، آج تیری وفادار ہے، کل تو نہیں ہو گا تو کسی اور کسی وفا کا گن گانے لگ لے گی، اُس سے بھی ایسے ہی ملے گی جیسے آج تھے سے ملتی ہے؛ اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور میرے پاس اس سے بہتر کنیزیں کم قیمت پر دستیاب ہیں، بس اس لیے میں نے اس کی تھوڑی سی قیمت لگادی ہے۔

بادشاہ پوچھنے لگا فقیر! تیری وہ کون سی کنیزیں ہیں، ذرا ان کے اوصاف تو بیان کر۔ آپ نے فرمایا: میرے پاس ایسی کنیزیں ہیں جو کافور سے بنی ہیں، زعفران سے ان کا ڈھانچہ تیار ہوا ہے، کستوری اور جو ہر نور سے ان کا پیکر تراشنا گیا ہے، اور ان کی خوبیوں کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ اپنا العاب دہن کھاری پانی میں ڈال دیں تو وہ شہد کی طرح میٹھا، شیریں اور خوش ذائقہ ہو جائے، کسی مردے کو اپنا نعمتہ لا ہوتی سنادیں تو وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑا ہو، اگر میری کوئی ایک کنیز اپنی کلائی سورج کے سامنے کھول دے تو سورج شرمندہ و رسوا ہو جائے، اگر دنیا کی تاریکی پر اس کا حسن ظاہر ہو تو ساری دنیا مشرق سے مغرب تک روشن اور منیج آنوار بن جائے۔ وہ مشک اور زعفران کے باغوں میں پلی ہیں، یا قوت اور مرجان

☆ عبادت خدا کی..... محبت محبوب خدا کی..... خدمت خلق خدا کی..... اور عاقبت اپنی..... بھی نہ کیمیا ہے!۔

کی شاخوں سے پھل توڑ کر کھاتی ہیں، اور تنیم کے پانیوں میں نہاتی ہیں، خوب دوستی بھانے والی ہیں، بے وقاری کی ان میں دور دور تک کوئی بونیں۔ اب تمہیں بتاؤ کہ تمہاری کنیز اچھی ہے یا میری کنیز یہ اچھی ہیں؟۔

بادشاہ نے کہا: کنیز یہ تو تمہاری اچھی ہیں مگر اب یہ بتاؤ کہ تمہاری کنیزوں کی قیمت کیا ہے؟۔ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا: بڑی سستی ہیں۔ بادشاہ نے کہا: دام تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا: رات کے اندر ہیرے میں اٹھ کر دور کعت نماز اور خدا کی خشیت میں گریہ وزاری..... میری کنیز یہ بس اس قیمت پر دستیاب ہیں۔

یہ سن کر بادشاہ کی حالت غیر ہو گئی، اس نے اپنا شاہانہ لباس پھاڑ دیا، تخت سے نیچے اتر آیا، معلوم نہیں تھا کہ یہ مالک بن دینار ہیں فقیر سمجھ کر گئے لگالیا، اور ان کا ماتھا چومنے لگا۔ پوچھا: بتا فقیر! اب میرے بچنے کی کیا سبیل ہے؟۔

آپ نے فرمایا: چھوڑ دے جس گھمنڈ میں ہے۔ اس نے اعلانِ عام کر دیا کہ میری جملہ کنیز یہ اور غلام آزاد ہیں۔ میں اپنی ساری جائداد اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس نے ایک موٹا کھر درا کپڑا پہن کر کہا: اے کنیز! اب تم بھی آزاد ہو۔

اس کنیز نے کہا: آقا اگر آپ کا حال یہ ہو گیا ہے تو اب میں کہاں جاؤں، اس نے بھی اپنا لباس تار تار کیا اور ایک ٹاٹ کا پوشاک پہن کر کہا: آقا سلامت! امیری میں آپ کے ساتھ تھی تو فقیری میں بھی آپ ہی کے ساتھ رہوں گی۔

چنانچہ دونوں عبادتوں کے لیے جنگل میں نکل گئے، ایک عارف ہو گیا اور ایک عارفہ بن گئی۔ اور زندگی بھروسہ اتنا روئے کہ زمین ان کی اٹھک باریوں سے تر ہو گئی، اور اللہ کی اسی خشیت میں انہوں نے جان جان آفریں کے سپرد کر دی۔^(۱)

(۱) روض الریاحین: ۵۶۳..... الاستعداد للموت و سوال القبر: ۳۱..... التواہین: ۱۷۲۔

☆ جن لوگوں کو آپ کی موت کا غم ہو سکتا ہے، ان کو زندگی میں خوشی ضرور دیجیے گا۔

ایک شخص حضرت مالک بن دینار کے پاس آ کر کہنے لگا کہ خدا واسطے آپ دعاے خیر فرمادیں؛ کیوں کہ اس وقت میں بہت ہی مضطرب و خستہ حال ہوں۔ فرمایا: اگر تو مضطرب ہے تو تو مجھ سے زیادہ دعا کرنے کا حق رکھتا ہے :

فَإِنَّهُ يَجِيدُ الْمُضْطَرَ إِذَا دُعَاهُ . (۱)

کیوں کہ پروردگار عالم، مضطرب کی دعا کو بطور خاص شرف قبول بختنا ہے۔

کہا جاتا ہے حضرت مالک بن دینار کے گھر کچھ چور چوری کی نیت سے گھسے؛ مگر تلاش بسیار کے باوجود انھیں ملا کچھ نہیں۔ انھیں نامراد جاتے دیکھ کر حضرت مالک نے فرمایا: اللہ کے بندو! اگر تمھیں متاع دنیا نہیں ملی تو کیا ہوا کچھ متاع آخرت ہی ساتھ ہی لیتے جاؤ؟۔ بولے: وہ کیا؟۔ فرمایا: وضو کرو، اور دور کعت نماز آدا کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، پھر حضرت مالک انھیں لے کر مسجد کی طرف چلے۔ لوگوں نے پوچھا: یہ کیا معاملہ ہوا؟۔ فرمایا: یہ چوری کرنے آئے تھے؛ مگر ہم نے خود انھیں چرا لیا۔ (۲) ۶۷:

شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے

حضرت جعفر بن سلیمان رحمہ اللہ حکایت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کی معیت میں شہر بصرہ جانے کا اتفاق ہوا۔ سیر و تفریح کے دوران ہماری نظر ایک زیر تعمیر محل پر پڑ گئی جو کہ ایک خوب رو نوجوان کی مانگتی میں مرحلہ تعمیر سے گزر رہا تھا، اور وہ جوان رعناء، مزدوروں، مستریوں اور کام کرنے والوں کو بڑے انہاک اور توجہ سے ہر ہر کام کی ہدایت دے رہا تھا۔

حضرت مالک نے مجھ سے فرمایا: ذرا دیکھو کہ جوان محل کی تعمیر و ترمیم کے معاملے میں کتنی دلچسپی رکھتا ہے؛ مگر مجھے اس کے حال پر حرم آ رہا ہے، اور چاہتا ہوں کہ اللہ سے اس کے حق

(۱) تفسیر قرطبی: ۱۳/۲۲۳۔

(۲) سیر اعلام النبیاء: ۵/۳۲۳..... صفتۃ الصفوۃ: ۱/۳۷۔

☆ مسئلہ یہ ہے کہ جانے والے خاموش ہیں اور بولنے والے جانے نہیں ہیں!

میں دعا کروں کہ اسے اس حال سے نجات دے، کیا عجب کہ یہ جوانانِ جنت سے ہو جائے۔
چنانچہ ہم اس کے پاس گئے، اور سلام کیا۔ اس نے بڑے چاؤ سے سلام کا جواب دیا۔
حضرت مالک نے پوچھا: اس محل کی تعمیر پر کتنا خرچ کرنے کا ارادہ ہے؟
کہا: کوئی ایک لاکھ درہ ہم۔

فرمایا: ایسا کیوں نہیں کرتے کہ یہ سارا مال مجھے دے دو؛ تاکہ میں اسے اس کے مستحقین میں صرف کردوں اور اس کے بد لے شہیں جنت میں اس سے کہیں بہتر ایک عالیشان محل کی ضمانت عطا کردوں، جو اس سے زیادہ پائیدار، خوبصورت، اور دیرپا ہے۔ جس کی مٹی منک و زعفران کی ہوگی، وہ کبھی منہدم نہ ہو گا، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ خادم، خادماں میں اور سرخ یاقوت کے قبے، نہایت شاندار اور حسین خیمے وغیرہ محل کے ساتھ ہوں گے اور اس کو معماروں نے نہیں بنایا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے مکن، فرمانے سے بن گیا ہے۔

اس نوجوان کے دل کے اندر حضرت مالک کی بات نے تیر کی طرح آڑ کیا؛ تاہم اس نے عرض کیا کہ اس بارے میں مجھے شب بھر غور کرنے کی مہلت عنایت فرمائیں۔

اول ہر حضرت مالک کو شب بھر بار بار اس نوجوان کا خیال آتا رہا، رات سے صبح تک اس کے حق میں دعاے خیر کرتے رہے۔ صبح کے وقت پھر اس جانب تشریف لے گئے تو نوجوان کو اپنے دروازہ پر کھڑا منتظر پایا۔

نوجوان (ایک لاکھ درہ ہموں کی تھیلیاں مالک بن دینار کے حوالے کرتے ہوئے) کہتا ہے: یہ رہی میری پونچی اور یہ حاضر ہیں قلم، دوات اور کاغذ۔

حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ کا غذ اور قلم ہاتھ میں لے کر اس مضمون کا بیع نامہ کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں :

بسم اللہ الرحمن الرحيم هذا ما ضمن مالک بن دینار لفلان
بن فلان اني ضمنت لك على اللہ قصر ابدل قصر ک صفتہ
کما وصفت و الزیادة على اللہ و اشتريت لك بهذا المال في

☆ کہتے یہ ہے کہ کہتے جیں.....کہتے داں نہیں ہو سکتا!

الجنة افسح من قصرك في ظل ظليل بقرب العزيز الجليل .
 يعني اللہ رحمٰن و رحیم کے نام سے شروع ۔ یہ تحریر اس غرض سے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اس کے اس مکان کے عوض اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا ایسا شاندار محل دلانے کا خیانت دار ہے ۔ اور اگر اس محل میں مزید کچھ اور ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس ایک لاکھ درہم کے بدلتے میں نے جنت کا ایک محل فلاں بن فلاں کے لیے خرید لیا ہے جو اس کے محل سے زیادہ وسیع اور شاندار ہے اور وہ محل قرب الہی کے سائے میں ہے ۔

پھر آپ نے اس رقعہ کو بند کر کے نوجوان کے حوالے کر دیا ۔ اور اس سے وصول شدہ ساری رقم نقرہ اوسا کین پر خرچ کر دیا ۔ ابھی کوئی چالیس دن بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا اور اس نے یہ وصیت کر رکھی تھی کہ دم واپسیں وہ رقعہ میرے زیر کفن رکھ دیا جائے ۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت مالک نے اس کی وفات کی رات اس رقعہ کو مسجد کے محراب میں پڑا پایا، اسے کھول کر دیکھا تو اس میں تحریر تھا :

هذہ براءۃ من اللہ العزیز الحکیم مالک بن دینار و فینا
 الشاب القصر الذي ضمنته له و زیادہ سبعین ضعفاً .

یعنی یہ معافی کا پرواتہ الہی ہے ۔ مالک بن دینار کو معلوم ہو کہ وہ نوجوان سر دست اس محل میں استراحت پذیر ہے جس کی تم نے خیانت لی تھی بلکہ اس کا ستر گناہ زیادہ اُسے عطا کیا گیا ہے ۔ (۱)

اس تحریر کو لے کر حضرت مالک بن دینار دوڑے ہوئے نوجوان کے گھر کی جانب تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر کا دروازہ ماتم گسار ہے، اور اندر سے نالہ و شیون کی آواز آرہی ہے ۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ نوجوان کل خدا کو پیارا ہو گیا ہے.....

(۱) روض الریاحین: ۵۷۵..... تفسیر روح البیان: ۳۱۰..... التوابین: ۱۷۶۔

☆ جن قوموں کے پاس دعا کا سہارا نہیں، ان میں خود کشی کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بصرہ کے اندر بارش ہونا بند ہو گئی۔ ہم نے یکے بعد دیگرے کئی دن نمازِ استسقا وغیرہ پڑھی مگر کہیں سے بارش کے آثار نہیں دکھائی پڑے؛ لہذا ایک دن عطا سلیمانی، ثابت بنیانی، محمد بن واسع، حبیب فارسی، صالح مری اور کچھ دوسرے شیوخ وقت کی معیت میں ہم نکلے اور بصرہ کی عیدگاہ میں جا کر نمازِ استسقا پڑھی اور خوب دعاے باراں کی؛ مگر پھر بھی اُب بارندہ سے ہم محروم رہے۔

دیگر حضرات تو لوٹ کر چلے گئے؛ مگر میں اور ثابت بنیانی و ہیں عیدگاہ میں زکر رہے۔ جب رات کی سیاہی چھائی، تو بڑے پیٹوں والا ایک سیاہ فام شخص موٹی چادر اوڑھے ہوئے آیا، جلدی میں پانی لے کر وضو کیا اور مختصرًا دور رکعت نماز پڑھی، پھر اپنی نگاہیں آسان کی طرف بلند کر کے کہنے لگا: مولا! تو اپنے بندوں کو کب تک ترپائے گا؟ اگر تیرے پاس بارش ہے تو اسے ہم پر اُتار۔ مولا! تجھے مجھ سے محبت فرمانے کی قسم! اب وہ گھڑی آگئی ہے کہ ہم پر باراںِ رحمت کا نزول ہو۔

فرماتے ہیں کہ ابھی اُس کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ہر طرف سے گھنگھور گھٹائیں چھائیں، اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور عالم یہ ہوا کہ آب باراں ہم تک پہنچ آیا۔

یہ دیکھ کر ہم ورطہ حیرت میں ڈوب گئے، اور اُس سیاہ فام کے پاس پہنچے..... ہمیں دیکھ کر اس نے راہِ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا: ذرا رکو۔ تو وہ کہنے لگا میں غلام ہوں اور اپنے چھوٹے آقا کی طاعت مجھ پر فرض ہے، یہ کہتے ہوئے وہ نحاس کے گھر میں جا گھسا۔

ہم سرچھ نحاس کے پاس آئے اور پوچھا: تمہارے پاس خدمت کے لیے کوئی غلام

☆ جس آدمی کی خواہش اُس کے حاصل سے زیادہ ہے وہ غریب ہے۔

ہے؟۔ کہا: ہاں میرے پاس تو سینکڑوں غلام ہیں، دیکھ لوکون سا پسند ہے۔ چنانچہ ہم کیے بعد دیگرے سارے غلاموں کا جائزہ لیتے رہے اور کہتے رہے نہیں یہ نہیں۔

میں نے پوچھا: اس کے علاوہ بھی غلام ہیں؟۔ کہا: ہاں، ایک اور ہے۔ جب ہم گئے تو دیکھا کہ وہی سیاہ فام اپنی بوسیدہ کٹیا میں کھڑا (مح العبادت) ہے۔ میں نے کہا: مجھے اسی کی تلاش تھی۔

محاس کہنے لگا: یہ بالکل بے کار غلام ہے۔ ہم وقت رو تارہتا ہے، یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا!۔

میں نے کہا: اسی مقصد کے لیے تو میں اسے خرید رہا ہوں۔ کہا: پھر اسے من چاہی قیمت پر لے لو؛ مگر مجھے اس کے عیوب سے بری رکھنا۔ چنانچہ میں نے بیس دینار دے کر اُسے خرید لیا۔

جب ہم وہاں سے نکلے تو وہ کہنے لگا: آقا! آپ نے مجھے کیوں خریدا؟۔ میں نے کہا: تاکہ ہم تمہاری خدمت کر سکیں۔ پوچھا: مگر ایسا کیوں کریں گے؟ (کیا کہیں آقا بھی غلام کی خدمت کرتا ہے)۔

میں نے کہا: کیا گز شتنہ شب عید گاہ میں تم ہمارے ساتھ نہ تھے؟۔

جیسے ہی اُس نے یہ سنا دوڑتا ہوا قریب کی ایک مسجد میں گھس گیا دو رکعت نماز آدا کی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے:

اے پور دگار! میرے اور تیرے درمیان جورا زہارے سربست تھے وہ آج خلوق
کے سامنے فاش ہو گئے ہیں۔ مجھے تیری قسم! ابھی میری روح قبض کر لے۔
إتنا کہتے ہی اُس کی روح نفس عنصری سے پرواز کر گئی۔

☆ پچھے یہاں ہوتا ہے کہ دعا مانگنے کا سلیقہ خود ہی آ جاتا ہے۔

(حضرت مالک بن دینار) فرماتے ہیں کہ ہم آج تک اس کی قبر سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں اور قحط سالی میں بارش کی دعائیں کر کے فیض یا ب ہوتے ہیں۔ (۱)
 حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمين بنائے گئے، تو چروہا ہوں نے پہاڑ کی چوٹیوں سے پوچھا: یہ نیک و صالح انسان کون ہے جسے لوگوں کا خلیفہ بنایا گیا ہے؟ - پوچھا گیا تمہیں اس سے کیا غرض! - کہنے لگے: جب سے ان کی خلافت کا دور آیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بکریاں، شیر اور بھیڑیوں کے ساتھ بے تکلف چرپھر رہی ہیں۔ (۲)

(۱) صفت الصفوۃ: ار ۲۰۱..... المستظر فی کل فن مستظر ف: ار ۱۵۰۔

حکایت مذکورہ سے صاف صاف ظاہر ہے کہ حضرت مالک بن دینار جیسے علم عمل کے آفتاب عالم تاب کا بیگی عقیدہ تھا کہ اہل اللہ کی قبریں مقبولیت دعا کے لیے بڑی ہی خاص مقام ہیں؛ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس اللہ والے جبشی غلام کی قبر کے پاس خداوند تعالیٰ سے بارش اور دوسرا حاجتوں کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ والے اس قدر خدا کے پیارے ہوتے ہیں کہ ان کی ہر ہر چیز اللہ کو پیاری ہوتی ہے، اور ان کی ہر ادا پر رحمت خداوندی کو پیار آ جاتا ہے جو ان کے منہ سے نکل جاتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے: رب اشعت اغبر ملوع بالابواب لو اقسام علی اللہ لا بره یعنی بہت سے ایسے بندگان خدا ہیں جن کے بال و پر پا گندہ اور غبار آ لو دیں اور لوگ انہیں حقیر سمجھ کر اپنے دروازوں سے دھکا دے کر نکال دیتے ہیں؛ لیکن بارگاہ خداوندی میں ان کی محبوبیت و مقبولیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات کی قسم کھا جائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور ان کی قسموں کو پورا فرمادیتا ہے؛ چنانچہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جبشی غلام نے خدا کو اس کی محبت کی قسم دلا کر بارش کی دعا مانگی تو فوراً ہی خداوند عالم نے بارش بھیج دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ بخوبی اللہ ایسے سیف زبان ہوتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مٹی کو سونا کہہ دیں تو منتوں بلکہ سکنڈوں میں مٹی سونا بن جاتی ہے، اور اگر یہ لوگ آگ کو پانی اور پانی کو آگ کہہ دیں تو دم زدن میں آگ پانی اور پانی آگ ہو جائے۔ اللہ والوں کی خدادار و حاضر طاقت کا کیا کہنا!

جلائقی ہے شمع کشش کو موجود نفس اُن کی
 الہی! کیمچھا ہوتا ہے اہل دل کے سینتوں میں
 (روحانی حکایات: حج ۲، ص: ۱۳۲۳۱۳۲)

(۲) العقوبات ابن ابی الدین: ار ۳۱۱ حدیث: ۲۷۔

☆ سورج کو نمایاں ہونے کے لیے تاریکی درکار ہے۔

حضرت عبد الواحد بن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت محمد بن واسع کی بارگاہ میں حاضر تھے اور حضرت مالک بن دینار بھی وہیں موجود تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور حضرت مالک سے بات چیت کرنا شروع کی اور سخت و درشت لمحے میں آ کر کہنے لگا: آپ نے جو تقسیم کی ہے وہ بالکل ناحق ہے اور آپ نے اپنی اہل مجلس کا اس میں خاص خیال رکھا ہے تاکہ وہ آپ کے ارادگرد گھومتے رہیں اور آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں۔ کہتے ہیں کہ اُس کی بات سن کر حضرت مالک بے اختیار روپڑے اور فرمایا: اے شخص! اس تقسیم سے میری یہ مرا نہیں تھی جیسا کہ تم نے بیان کیا۔ اس نے کہا: قسم بخدا! آپ کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب اس نے حضرت مالک پر با توں کی بوچھار کر دی تو آپ نے اپنے ہاتھ حضرت مولا میں اٹھا کر دعا کی: اے پور دگار! اس شخص نے دخل اندازی کر کے ہمیں تیرے ذکر و فکر سے روک رکھا ہے؛ اس سے ہمیں نجات عطا فرم۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کی شان دیکھیں وہ شخص وہیں مردہ ہو کر گر پڑا۔ (۱)

ایک مرتبہ کسی یہودی کے مکان کے قریب آپ نے کرایہ پر مکان لیا۔ اور آپ کا جگہ یہودی کے دروازے سے متصل تھا؛ چنانچہ یہودی نے دشمنی میں ایک ایسا پرناہ بنا لیا جس کے ذریعہ پوری غلامت آپ کے مکان میں ڈالتا رہتا، جس سے آپ کی نماز کی جگہ شخص ہو جایا کرتی۔ بہت عرصے تک وہ یہ عمل کرتا رہا؛ لیکن آپ نے کبھی شکایت نہیں کی۔ ایک دن اس یہودی نے خود ہی آپ سے عرض کیا کہ میرے پرنا لے کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پرنا لے سے جو غلامت گرتی ہے اس کو جھاڑو لے کر روزانہ دھوڈا لتا ہوں۔ اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔

یہودی نے عرض کیا کہ آپ کو اتنی آذیت برداشت کرنے کے باوجود بھی غصہ نہیں آیا؟۔ فرمایا کہ خداۓ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جو لوگ غصے پر قابو پالیتے ہیں نہ صرف ان کے

(۱) بسان الاعظین و ریاض الصالحین: ۱۰۰۔

☆ جتنے عظیم لوگ تھے وہ غیر عظیم زمانوں میں آئے۔

گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ انھیں ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سن کر یہودی نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا نہ ہب، بہت عمده ہے؛ کیوں کہ اس میں معاندین کی اذیتوں پر صبر کرنے کو اچھا کہا گیا ہے اور آج میں سچے دل سے إسلام قبول کرتا ہوں۔ (۱)

رحمتِ خداوندی بہا نہ می جو یہد

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے :

إنِي أَهْمَ بِعِذَابِ عَبْدِي فَأَنْظُرْ إِلَى عَمَارِ الْمَسَاجِدِ وَجَلَسَاءِ
الْقُرْآنِ وَلَدَانِ إِلَّاسِلَامِ فَيُسْكِنَ غَصْبِي . (۲)

یعنی میں اپنے بندوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن مسجد کو آباد کرنے والوں، قرآن کی نشتوں اور اہلِ إسلام کے بچوں کو دیکھ کر میرا غصبِ محدثا پڑ جاتا ہے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے قساوتِ قلبی اور دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی چیز و بالی جان نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی پر نگاہِ غصب فرماتا ہے تو ان کے دلوں سے رحم و مرقت کے دیے گل فرمادیتا ہے.... (۳)

حضرت ربانی قیسی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جنتِ نعیم، جنتِ فردوس اور جنتِ عدن کے درمیان واقع ہے۔ اس میں ایسی ہمسایہ حوریں ہوں گے جنھیں جنتی گلابوں سے تراش کر بنایا گیا ہوگا۔

(۱) تذكرة الاولیاء مترجم: ۳۰۔

(۲) تفسیر قرطبی: ۱۲/۲۷.....تفسیر درمنثور: ۵/۵.....الزہد لاحمد بن حبل: ۲۲/۲ حدیث: ۵۰۔

(۳) تفسیر قرطبی: ۱۵/۲۲۸.....تفسیر بغوی: ۷/۱۱۵۔

☆ اگر خوف زدہ انسان بے خوف ہو جائے تو خوفزدہ کرنے والے کی طاقت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

پوچھا گیا کہ اس میں رہے گا کون؟ - فرمایا: وہ لوگ جنہوں نے گناہ گاری کے بعد پرہیز گاری اختیار کی، اور جب انہوں نے میری (یعنی اللہ کی) عظمت و جلال کا حال سنا تو وہ سراسیمہ و پشمیان ہو کر میری تلاش میں نکل پڑے، اور جن کی ہڈیوں کے گودے میری خشیت و خوف کے باعث بہہ گئے۔ جب میں اہل زمین کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو ان خستہ حالوں، اور میرے لیے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے والوں کو دیکھ کر میرا عذاب اوپر ہی رُک جاتا ہے۔^(۱)

حضرت مالک بن دینار سے حکایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا: میں نے بصرہ میں کچھ لوگوں کو جنازہ لے جاتے ہوئے دیکھا؛ مگر اس جنازہ کی مشایعت میں چلنے والا کوئی نہ تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو پتا چلا کہ وہ بڑا پاپی اور لگنہ گار شخص تھا۔

کہتے ہیں کہ میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اسے قبر میں اُتارا اور وہیں ایک سائے کی آڑ لے کر سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دو فرشتے آسمان سے اُترے، اس کی قبر کو شوچنے کیا، ان میں سے ایک اس کے پاس گیا اور دوسرا سے کہا کہ اسے جہنمیوں میں سے لکھ لو؛ کیوں کہ اس کے جسم کا انگ انگ گناہوں سے آلوہ معلوم ہو رہا ہے۔

دوسرا نے کہا: فیصلہ لینے میں اتنی جلدی نہ کرو، ذرا اُس کی آنکھوں کا جائزہ لو۔ کہا: میں نے ان کا جائزہ لے لیا ہے، ان آنکھوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔

کہا: اس کے کانوں کا جائزہ لو۔ بولا: ان کا بھی جائزہ لے لیا ہے، ان کانوں نے تاثیت بے حیائیوں اور برا ایسوں کے علاوہ کچھ سنہا ہی نہیں ہے۔

کہا: اس کی زبان کا جائزہ لو۔ بولا: اس کی بھی جائزہ کر لی ہے، اس زبان نے زندگی بھر ارتکاب معاصی اور غلط بیانی کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہے۔

(۱) تفسیر ابن الجازی: ۵/۲۸.....تفسیر روح المعانی: ۵/۵.

☆ اگر معاشرے میں باضیر پیدا ہو گئے تو مردہ ضیر دیسے ہی روپوش ہو جائیں گے۔

کہا: اس کے ہاتھوں کا جائزہ لو۔ بولا: ان کا بھی امتحان لے لیا ہے۔ یہ ہاتھ تھا حیات حرام خوری اور شہوت و ہوس کے پچاری بننے رہے۔

کہا: اس کے پاؤں کا جائزہ لو۔ بولا: ان کی بھی خبر لے لی ہے، ان پاؤں نے بھی ناپا کیوں اور غلطیتوں میں دندناتے پھرنے کے اور کچھ نہیں کیا ہے۔

کہا: ابھی بھی کسی عجلت سے کام لینے کی ضرورت نہیں، ذرا ہٹو میں اس کی قبر میں اُتر کر دیکھتا ہوں۔ چنانچہ وہ دوسرا فرشتہ قبر میں اُتر اور تھوڑی دیر اس کے پاس کھڑا رہا، اور کہا: میرے دوست میں نے اس کے دل کا جائزہ لیا تو اسے دولتِ ایمان سے بھر پور پایا ہے؛ لہذا بس اسی باعث اسے نیکوں اور مرحومن میں شامل کرو۔ چنانچہ ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا فضل فرمایا کہ اس کی زندگی کے سارے جنم و خطاء معاف فرمادیے۔^(۱)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں: مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ (رضاء مولا کے لیے) فاقہ کشی کرنے یا بھوکے رہنے والے لوگ قیامت کے دن بہشتی چھلوں کو کھانے میں لگے ہوئے ہوں گے؛ حالاں کہ دیگر لوگ ابھی حساب و کتاب کے جھمیلے میں الجھے ہوں گے۔^(۲)

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے مسلم بن سیار کو ان کے انتقال کے ایک سال بعد خواب میں دیکھا۔ جب سلام کیا تو انہوں نے مجھے جواب سے محروم رکھا۔ میں نے پوچھا: مرنے کے بعد تم پر کیا بیتی؟ تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبائیں اور کہنے لگے: میں بڑی بڑی دشتوں اور شدید قسم کے زلزلوں سے دوچار ہوا۔ میں نے پوچھا: اس کے بعد پھر کیا ہوا؟۔ کہا: کریم سے کرم کے سوا اور کسی چیز کی توقع رکھی جاتی ہے!، اس نے ہماری نیکیوں کو شرف قبول عطا کر کے ہماری برا نیکوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا، اور ہمارے درجات بھی بلند کر دیے۔

(۱) تفسیر روح المیان: ۳۱/۳۔

(۲) الجواع ابن ابی الدین: ۱/۲۲۷ حدیث: ۱۳۲۔

☆ ہو سکتا ہے کہ کسی غریب و مسکن کے منہ پر آپ کی ایک مکراہٹ اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ بلند کر دے۔

اتنا سننا تھا کہ حضرت مالک بن دینار نے سکتے ہوئے ایک گھری سانس لی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر کچھ دن آپ یوں ہی فرشی علالت پر پڑے رہے بالآخر یہی مرض آپ کے لیے سامان قضا ابن گیا۔

کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ نے آپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔^(۱)

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میرا ایک بڑا ہی بدکار و گنہ گار ہمسایہ تھا۔ سارے پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے عاجز تھے۔ جب مجھے اس کی خبر پہنچی تو میں نے کہا: ایسا کرو کہ تم یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا: میرا اپنا نجی مکان ہے، میں اس سے نکل کر کہیں اور کیوں جانے لگوں! تو میں نے کہا: اپنا مکان نیچ دو۔ کہا: اپنے وطن کے اندر موجود اس گھر کو میں کبھی فروخت نہیں کروں گا۔

میں نے کہا: ٹھیک ہے تو میں بادشاہ سلامت سے جا کر تمہاری شکایت کیے دے رہا ہوں۔ کہا: میں خود بادشاہ کے معاونین میں سے ہوں۔ میں نے کہا: (اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو) میں تمہارے لیے بدعما کر دوں گا۔ اس نے کہا: چلیے! اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں زیادہ مجھ پر مہربان ہے۔

کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی بدعما کا قصد کیا، ہاتھ غیب سے ندا آئی: مالک! اس کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ کہ ایس یکے از دوستانِ من است۔ یعنی یہ شخص میرے دوستوں میں سے ہے۔^(۲)

(۱) حلیۃ الاولیاء: ارس ۳۳۳..... الزہر الفائح فی ذکر من تزہ عن الذنب والقباح: ۱/۲۲..... الروح: ۱/۲۲..... الجالس و جواہر العلم: ۱/۳۶.....

(۲) الروض الفائق فی الموعظ والرقائق: ۱/۲۱..... الزہر الفائح فی ذکر من تزہ عن الذنب والقباح: ۱/۱۳..... التوأیین: ۱/۶۸۔

☆ کوشش کو اگر ہاتھی کہلیا جائے تو نصیب ابا معل کی گلگری ہے۔

حضرت مالک بن دینار نے ایک مرتبہ شیخ ابان سے دریافت کیا کہ آپ لوگوں کو رخصت کی حد شیش کب تک سنائیں گے؟۔ انہوں نے جواب دیا: اے ابو بیجی! مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز تم خداوند قدوس کے عفو و کرم کے اتنے مناظر دیکھو گے کہ برداشت نہ کرسکو گے۔^(۱)

امام سیوطی علیہ الرحمہ نے شرح الصدور ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی رات قبرستان گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں نور چمک رہا ہے۔ ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ شاید اللہ نے قبرستان والوں کو بخش دیا ہے۔ غیب سے آواز آتی ہے: اے مالک! یہ مسلمانوں کا تحفہ ہے، جوانہوں نے اہل قبور کو بھیجا ہے۔

میں نے پوچھا: مسلمانوں نے کیا تحفہ بھیجا ہے؟۔ آواز آتی: ایک مرد مومن نے اس رات میں اس قبرستان میں قیام کیا، اور دور کعت نماز پڑھی۔ اس طرح کہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھی اور کہا کہ اے اللہ! اس کا ثواب میں نے مومن اہل قبور کو بخشنا، تو بس اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی اور نور بھیجا اور ہماری قبروں میں مشرق و مغرب کی وسعت پیدا کر دی۔

حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے میرا یہ معمول بن گیا کہ میں جمعرات کو دونفل پڑھ کے اس کا ثواب مومنین کو بخش دیتا۔

صحابتوں کا فیضان

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك من أن تأكل
الخبisch مع الفجار .^(۲)

(۱) احیاء علوم الدین مترجم: ۲۲۲/۳۔

(۲) قرطی: ۱۱/۲۷.....آلوبی: ۱۳/۱۵.....تفسیر نیسا پوری: ۶/۲۰.....روضۃ العقول و نزہۃ الفحلاں: ۱/۳۳۔

☆ زندگی کو قیمت جائیے، یعنی قریب آپ سے لے لی جائے گی۔

لیعنی نیک کاروں کی صحبت میں بیٹھ کر لکنگری چننا (یا پتھرا دھرا دھر کرنا) اس سے بہتر ہے کہ بد کاروں کے ساتھ بیٹھ کر گھنی اور کھجور کے بننے حلے کھائے جائیں۔

قرآن، ذر لعیہ شادابی دل

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے :

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، مَاذَا زَرَعَ الْقُرْآنَ فِي قُلُوبِكُمْ؟ فَإِنَّ الْقُرْآنَ رَبِيعُ
الْقُلُوبِ كَمَا أَنَّ الْغَيْثَ رَبِيعُ الْأَرْضِ . (۱)

لیعنی اے اہل قرآن، تمہارے کشت دل پر قرآن نے کیا ہر یا لی پیدا کی ہے؟ کیوں کہ قرآن، قلب کے لیے موسم بہار کی حیثیت رکھتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے بارش سطح گئی کے لیے بہار کا سبب ہوتی ہے۔

دم رخصت کے مناظر

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک ہمسائے کے پاس گیا جو اپنی جانبی کے عالم میں کہے جا رہا تھا: آگ کے دو پہاڑ! آگ کے دو پہاڑ!! میں نے پوچھا: یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارے اوسان خطا کر گئے ہیں؟؟؟۔

کہا: اے ابو بیجی! دراصل بات یہ ہے کہ میرے پاس (ناپنے کے) دو پیانے تھے۔ ایک سے لیتا تھا، اور دوسرے سے دیتا تھا۔ (حضرت مالک فرماتے ہیں کہ) میں اٹھا اور ان دونوں کو آپس میں نکرا نکلا کے توڑ ڈالا۔ تو اس نے کہا: اے ابو بیجی! جب جب آپ ایک کو دوسرے سے نکل رہے تھے میرا تو شہر راہ فزوں ہو رہا تھا۔ چنانچہ وہ شخص اسی حالت میں لقمہ اجل بن گیا۔ (۲)

(۱) تفسیر قرطبی: ۵۵۱۶..... تفسیر بحر محيط: ۳۹۰/۹..... احیاء علوم الدین: ۲۹۲/۱۔

(۲) تفسیر قرطبی: ۲۵۲۱/۹۔

☆ جس میں ادب نہیں اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔

حضرت حزم فرماتے ہیں کہ ہم مالک بن دینار علیہ الرحمہ کی اُن کی مرض وفات میں عیادت کرنے گئے تو وہ اپنے نفس کو بہلا پھسلا رہے تھے، پھر انھوں نے آسمان کی طرف سراٹھا کر کہا :

اللّٰهُمَّ إِنْكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَحْبَبِ البقاءَ فِي الدُّنْيَا لِبَطْنٍ وَلَا لِفَرْجٍ . (۱)
 لِيْسَ اَے پروردگار! تجھے معلوم ہے کہ میں دنیا میں شکم و شہوت کی آگ بخانے
 کے لیے نہیں باقی رہنا چاہتا۔

دنیا و آخرت کی حقیقت

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ دنیا اگر سونے کی ہوتی جب بھی اسے فنا ہونا تھا اور آخرت ٹھیکری کی ہوتی جب بھی اسے باقی رہنا تھا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ باقی رہنے والی ٹھیکری کو فنا ہونے والے سونے پر ترجیح دیا جاتا!۔

فرماتے ہیں: پھر ذرا سوچو کہ آخرت تو درحقیقت سونے کی ہے جسے ہمیشہ باقی رہنا ہے اور دنیا ملکیت کی ہے جسے فنا ہو جانا ہے۔ (اب تم خود ہی فصلہ کر لو کہ اس دنیا میں تم تھیں کس طرح رہنا چاہیے اور اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے!) (۲)

بصہرہ میں کوئی امیر آدمی فوت ہو گیا، اور اس کی پوری جانشیدا اس کی اکلوتی بیٹھی کوٹلی، جو بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس نے حضرت ثابت بن علیؓ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح مالک بن دینار کے ساتھ ہو؛ تاکہ ذکر اپنی اور دنیاوی کاموں میں وہ میری معاونت کر سکیں۔

(١) الإله الباقي حاتم رازى: ١/٢٨٧ حدیث: ٢٧.
 (٢) تفسیر قرطبی: ٢٠/٢٢ تفسیر فتح التدریج: ٣٧٣.

(٢) تفسير قرطبي: ٢٠ تفسير فتح القدر: ٣٧ -

☆ نیک بخت وہ ہے کہ نیکی کرے اور ڈرے۔ اور بد بخت وہ ہے کہ بدی کرے اور مقبولیت کی امید رکھے۔

چنانچہ حضرت ثابت بنانی نے اس ناز نین کا پیغام حضرت مالک بن دینار تک پہنچا دیا لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں اور چوں کہ عورت کا شمار بھی دنیا ہی میں ہوتا ہے؛ اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں۔

ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سامنے میں استراحت فرمائے تھے اور چشم دید گواہوں نے بتایا کہ ایک سانپ بزرگ کی شاخ سے آپ کو پکھا جھل رہا تھا۔^(۱)

مصیبتیں کیوں کر آتی ہیں؟

حضرت جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار کو یہ فرماتے ہوئے سنائے کہ جب تحطیسی و عذاب آتا ہے تو وہ محض ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور جب آسودہ حالی و شادابی آتی تو وہ یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے :

وَ أَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مُذَرَّاً وَ جَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ،
فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَآ آخرین^(۲) (سورہ انعام: ۶۲)

ترجمہ: اور ہم نے ان پر لگاتار برنسے والی بارش بھیجی اور ہم نے ان (کے مکانات و محلات) کے نیچے سے نہریں بھائیں پھر (اتفاق پر عشرت زندگی دینے کے باوجود) ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انھیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری اُمتوں کو پیدا کیا۔^(۲)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کی محبت میں بد مست ہو گئے، ہم میں کسی کو نہ تو امر بالمعروف کی پڑی ہے اور نہ نبی عن المکر کی لگن ہے۔ اور یہ تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا تو اب دیکھیے کہ (ہماری ان نابکاریوں کے باعث)

(۱) تذکرة الاولیاء مترجم: ۲۹۔

(۲) تفسیر ابن ابی حاتم: ۵/۱۸۹۔

☆ حقیقی خوبصورتی کا چشمہ دل ہے۔ اگر یہ سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کچھ کام نہیں دیتیں!

کیا عذاب ہم پر ٹوٹتا ہے؟۔ (۱)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس مردوں اور عورتوں کا ہجوم رہا کرتا تھا۔ یہ عالم انھیں وعظ و نصیحت کرتا، اور پچھلی قوموں کے عبرت انگیز واقعات سناتا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو کسی عورت کی طرف متفت ہوتے اور آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے دیکھا۔

یہ حرکت کتنی بڑی تھی مگر باپ نے بیٹے سے صرف اتنا کہا: بیٹے! بس کر، باز آ جا۔ ابھی وہ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے تحفے سے نیچے گر پڑا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کی بیوی کا حمل ساقط ہو گیا اور اس کے بیٹے جنگ میں مارے گئے۔

اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبر پر وحی پھیجی کہ فلاں عالم سے کہہ دو کہ میں تیری آنے والی نسلوں میں کبھی کوئی صدیق پیدا نہیں کروں گا۔ اگر تیرا ہر فعل میری رضا کے لیے ہوتا تو تو اپنے بیٹے کو یہ نہ کہتا: ”بس کر بیٹا، بلکہ اس کی اس گندی حرکت پر سخت سزا دیتا۔ (۲)

تکلیف کا آنجام راحت

حضرت مالک بن دینار اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں کثرت سے جہاد کا منشی رہا کرتا تھا لیکن جب ایک موقع جہاد کا آیا تو مجھ کو ایسا بخار آیا کہ جانے کا نام ہی نہ لیتا تھا، چنانچہ اسی غم میں ایک شب یہ کہتا ہوا سو گیا کہ اگر خدا کے نزد یک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو اس وقت بخار کبھی نہ آتا۔ پھر خواب میں دیکھا کہ ندائے غیبی سے کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مالک بن دینار! اگر آج تو جہاد کے لیے چلا جاتا تو قیدی بنا لیا جاتا اور کفار تجھ کو سور کا گوشت کھلا کر تیرا دین

(۱) حلیۃ الاولیاء: ۳۷۶۔

(۲) حلیۃ الاولیاء: ۳۷۲/۲.....الزہد لابی داؤد: ۲۳۳.....الزہد لابن حبیل: ۲۹۰/۲.....احیاء علوم الدین: ۱۳۸/۲.....صفۃ الصفرۃ: ۳۶۹.....الجواب الکافی: ۱: ۳۲۱۔

☆ محبت کے لحاظ سے ہر باپ ”یعقوب“ اور حسن کے لحاظ سے ہر بیٹا ”یوسف“ ہے۔

ہی برباد کر دیتے؛ لہذا یہ بخار تیرے لیے نعمت غیر متربقہ ہے۔ پھر میں نے بیدار ہو کر خدا کا شکر آدا کیا۔^(۱)

شب بیداروں کے واقعات

حضرت جعفر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار کو یہ فرماتے ہوئے سنائے
ریج کی بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا: پدر بزرگوار! پوری دنیا سور ہی ہوتی ہے مگر آپ کو کیا
ہو گیا ہے آپ ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے نیند کیوں روٹھ گئی ہے؟ فرمایا:
بیٹی! مجھے خوف لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ (فرشتہ موت) شب خون مار جائے اور میں
سویا کا سویا ہی رہ جاؤں۔^(۲)

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نیم شی کی خلوتوں میں نماز
تہجد پڑھنے کے لیے (اپنے نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر) اٹھتا ہے، اور قرآن کو اس کے جملے
حقوق و آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے، تو پروردگار عالم بجائے خود اُس کے قریب
ہو جاتا ہے۔ اور وہ قریب مولا کی اس دولت بیدار کو رفت و حلاوت اور فتوح و برکات کی
شکل میں اپنے قلب کے اندر محسوس کر لیتا ہے۔^(۳)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

لو استطعت أن لا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب و أنا نائم،
ولو وجدت أعواانًا لفرقتهم ينادون فيسائر الدنيا كلها يا أيها
الناس النار النار .^(۴)

(۱) تذكرة الاولیاء مترجم: ۲۹۔

(۲) تفسیر ابن ابی حاتم: ۵/۶۲۹..... حلیۃ الاولیاء: ۱/۲۵۶..... صفة الصفة: ۱/۳۱۷۔

(۳) تفسیر روح البیان: ۱۲/۲۰۱۔ قوت القلوب: ۱/۸۷۔

(۴) حلیۃ الاولیاء: ۱/۳۷۹۔

☆ دنیا سفر خانہ ہے؛ مگر بدجتوں نے اپنا طن بنا رکھا ہے۔

یعنی اگر نہ سونا میرے اختیار میں ہوتا تو میں کبھی نہ سوتا اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سوجاؤں اور عذاب قدرت اُتر پڑے۔ اور اگر میرے کچھ معاونیں ہوتے تو میں انھیں پوری دنیا میں یہ پیغام دے کر بھیج دیتا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ آگ لگ چکی ہے، آگ بھڑک چکی ہے۔

حضرت مالک بن دینار کی بیٹی نے ایک مرتبہ پوچھا :

لَمْ لَا تَنَمْ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبَاكَ يَخَافُ الْبَيَاتِ . (۱)

یعنی پدر بزرگوار! آپ رات میں سوتے کیوں نہیں (حالاں کہ پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے؟) آپ نے فرمایا: جان پدر! مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سوؤں اور کوئی میری فصیل جاں پر شب خون مار دے۔

حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شب اپنا ورد پڑھے بغیر سو گیا تو میں نے خواب میں ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک رقعہ تھا۔ اس نے قریب آ کر مجھ سے کہا: کیا تم اسے پڑھنا پسند کرو گے؟۔ میں نے کہا: ہاں! تو اس نے وہ رقعہ مجھے دے دیا۔ جب میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں تحریر تھا:

الْهَتَكُ الْمَذَانِدُ وَالْأَمَانِيُّ ☆ عن الْبَيْضِ الْأَوَانِسِ فِي الْجَنَانِ
تَعِيشُ مَخْلَدًا لَا مَوْتَ فِيهَا ☆ وَتَلِهُ فِي الْجَنَانِ مَعَ الْحَسَانِ
نَبْهَ مِنْ مَنَامَكَ أَنْ خَيْرًا ☆ مِنَ النَّوْمِ التَّجَهِيدُ بِالْقُرْآنِ
يُعْنِي كِيَا تَجْهِي (دنیا کی) لذتوں اور خواہشوں نے جنت کی کنواری دو شیزوں سے غافل کر دیا؟۔

(یاد رکھ کہ) جنت میں تو ہمیشہ رہے گا؛ کیوں کہ وہاں موت نہیں آتی، اور خوبصورت عورتوں کے ساتھ کھلینے اور دل بستگی کا سارا سامان بھی ہو گا۔

(۱) الرسالۃ القشریۃ: ۲۷۱۔

☆ ہر انسان کو اپنے علاوہ کچھ بننے کی آرزو ہے، اور یہی آرزو پر یہانی کی وجہ ہے۔

(اگر تو خردمند ہے تو) اپنی نیند سے بیدار ہو جا؛ کیوں کہ تہجد کے ساتھ قرآن پڑھنا سوئے رہنے سے کہیں بہتر ہے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب کبھی بھی مجھے یہ خواب یاد آ جاتا تو میری آنکھوں سے نیندا اڑ جاتی۔ (۱)

مسلم خوابیدہ اُٹھ ہنگامہ آ راتو بھی ہو

وَفِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ زَهْفِيْتُ يُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُضْلِلُونَ . (۲)

اور (قوم شمود کے) شہر میں نوسرا کرده لیڈر (جو اپنی جماعتوں کے سربراہ تھے ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔

حضرت جعفر بن سلیمان ضعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار کو مذکورہ بالا آیت کی تفسیر ایک مرتبہ اس طرح بیان کرتے ہوئے سنائے کہ آپ نے فرمایا کہ (وہ تو پورے شہر کے اندر صرف نولیڈر تھے) اور آج یہاں توہر قبیلہ میں نہ معلوم کتنے سرکرده لیڈر فساد مچاتے پھر رہے ہیں اور انھیں اصلاح کی ایک ذرا فکر بھی نہیں ہے۔ (۳)

خشیتِ مولا کا جدا گانہ رنگ

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ دم رخصت یہ وصیت کر جاؤں کہ مجھے مرنے کے بعد ویسے ہی گھسیت کر دفاتنے کے لیے لے جانا جس طرح بھگوڑے غلام کو بے دردی سے کھینچ کر اس کے آقا کے پاس لا جاتا ہے۔ پھر اگر پروردگار نے پوچھ

(۱) الذکرۃ قرطبی: ۵۵۶.....احیاء علوم الدین: ۱:۳۵۵.....الجالست و جواہر العلم: ۲۹.....ابن الرانع فی ثواب اعمل الصالح: ۹۷۔

(۲) سورہ نمل: ۲۸/۲۷۔ (۳) تفسیر ابن الجیم: ۱۱/۱۶۳۔

☆ ہماری مساجد ہمارے لیے فلاحی مراکز بن جائیں تو ایک خوبصورت انقلاب آ سکتا ہے۔

دیا کہ (مالک تم نے ایسا کیوں کیا تو) میں کہہ سکوں: مولا! (نفس کی سزا کے طور پر میں نے یہ سب کچھ کیا؛ کیوں کہم بخت) نفس نے ایک لمحہ بھی تیری رضا کے کام نہ کرنے دیا.....(۱)
عبد بن ولید قرضی کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ مجھے پاگل دیوانہ کہتے پھر یہ گے تو میں ثاث پہنتا اور سر پر خاک ڈالتا ہو الگوں کے درمیان یہ کہتا ہوا پھرتا کہ مجھے دیکھنے والا درس عبرت حاصل کرو، ہوش میں آؤ، اور اب تو اپنے رب کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو۔ (۲)

حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبد قیس سے ایک عورت نے پوچھا :

ما لی اُری الناس یnamون و لا اُرَاک تنام؟ قال: إن ذكر جهنم لا يدعني أنمam . (۳)

یعنی لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ شب کی تاریکی پھیلتے ہی اپنے بستروں پر دراز ہو جاتے ہیں مگر آپ کیوں نہیں سوتے؟ (یہم شب کی خلوتوں میں کیوں جا گئے رہتے ہیں؟) فرمایا: جہنم کی یاد نے میری آنکھوں سے نیندا اڑا دی ہے۔

حضرت ابو بکر بن ابو نصر فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی دوست نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رات کی تاریکیوں میں اپنی داڑھی پکڑ کر کھڑے ہو جاتے اور فرماتے: اے پور دگار! میرے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے مجھے آتش جہنم سے نجات عطا فرم۔ پھر وہ ایسا ہی کرتے رہتے یہاں تک کہ پیغمبر سُخْرَ نِمُودَار ہو جاتا۔ (۴)

(۱) تفسیر آلوی: ۱۶۶/۲۳.....الثبات عند الحکمات: ۱/۱۳۷۔

(۲) شعب الایمان تبہی: ۹/۲۷۹ حدیث: ۹۳۵۔

(۳) التجدد و قیام اللیل: ۲۲/۱ حدیث: ۵۷.....انساب الاشراف: ۲۰۲/۳۔

(۴) التجدد و قیام اللیل ابن ابی الدین: ۱/۳۸۲ حدیث: ۳۲۷۔

☆ خوش نصیب انسان فیضت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔

حضرت مالک بن دینار فرمایا کرتے تھے: اے کاش! میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ لیکن جب پیدا ہو گیا تو عالم طفویل ہی میں مر گیا ہوتا۔ اور جب عہد طفیل میں نہیں مر سکتا تو اے کاش! اتنی عمر جاتی کہ میں نفس کو زیر کر کے کچھ اخلاص عمل کر لیتا۔^(۱)

حضرت مالک بن دینار کبھی بھی پوری پوری شب اپنی داڑھی پکڑ کر یہ کہتے گزار دیتے: اے پروردگار! کچھ لوگوں کی رہائش گاہ تو نہ بہشت بریں بنائی ہے اور کچھ لوگ آتش جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں؛ تو مجھے بتا کہ اس مالک بن دینار کا ٹھکانا تو نہ کہاں بنایا ہے؟۔^(۲)

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ سے حکایت پیان کی جاتی ہے کہ آپ اپنے ایک بھائی کے جنازے میں جا رہے تھے اور ساتھ ہی گریہ و بکار تھے ہوئے یہ کہتے جاتے تھے :
وَاللَّهُ لَا تَقْرِلِي عَيْنَ حَتَّى أَعْلَمَ مَا صَرَطَ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ لَا أَعْلَمُ مَا دَمَتْ حَيَاً۔

یعنی قسم بخدا! میری آنکھیں اُس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتیں جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ میں اُس کی جناب میں کس حال میں پیش کیا جاؤں گا؟۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ جب تک سانسوں کا تاریخ میں بندھا ہوا ہے میں اس تعلق سے کچھ جان بھی نہیں سکتا۔^(۳)

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عتبہ غلام کو نگی دھوپ میں کھڑا، اور پسینے میں شرابور دیکھ کر پوچھا :

ما الَّذِي أَوْقَفَكَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ؟ فَقَالَ: يَا سَيِّدِي هَذَا مَوْضِعٌ عَصَيْتَ اللَّهَ فِيهِ۔

(۱) *امتنان ابن ابی الدنيا: ۱/۵۷* حدیث: ۷۷۔

(۲) *جامع العلوم والحكم: ۲/۳۱*۔

(۳) *ایماء علوم الدین: ۲/۵۳..... الزہر الفارغ فی ذکر من تزہ عن الذنوب والقبائح: ۱/۲۰*۔ تحریرہ اسلام: ۳۳۱۔

☆ اگر روزی کا نحصار عقل مندی پر ہوتا تو دنیا کے سارے بے وقوف بھوکے مر جاتے!

یعنی کس چیز نے تمہیں اس جگہ کھڑا رہنے پر مجبور کیا ہے؟ کہا: میرے آقا! یہ وہی جگہ ہے جہاں میں نے کبھی اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تھی۔
پھر یہ شعر گنگا نے لگا :

أَتَفْرَحُ بِالذُّنُوبِ وَ بِالْمَعَاصِي ﴿١﴾ وَ تَسْسِي يَوْمًا يَؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي
وَ تَأْتِي الذُّنُوبُ عَمَدًا لَا تَبَالِي ﴿٢﴾ وَ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْكَ حَاصِي
يُعْنِي آج تم اپنے گناہوں اور زیاں کاریوں پر اتراتے پھر رہے ہو، اور اس دن کا تصور اپنے ذہن و فکر سے نکالے بیٹھے ہو جس دن (مجرموں کو ان کی) پیشانی کے بال سے پکڑ کر لا جائے گا۔

اور نہایت بے فکری کے ساتھ آج تو جان بوجھ کر گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے (حالاں کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ) پروردگار عالم تیرے سارے گناہوں کو جیطہ شمار میں لا کر (اس کا ریکارڈ تیار کر رہا ہے)۔ (۱)
حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

لَوْدَدَتْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ رِزْقِي فِي حِصَّةِ أَمْجَهَا لِقَدْ
اسْتَحْيَيْتُ مِنْ كَثْرَةِ اخْتِلَافِي إِلَى الْكَنِيفِ . (۲)

یعنی میری دلی خواہش تھی کہ کاش! اللہ تعالیٰ نکریوں کو میرا رزق بنا دیتا کہ انھیں چوس کر میں پھینک دیا کرتا؛ کیوں کہ مجھے بیت الخلاء بار بار جاتے (اور اپنے اعضا عربیاں کرتے) ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔

حضرت مالک بن دینار سے پوچھا گیا کہ آپ کی صبح کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا :

(۱) الزہر الفائج فی ذکر من تزہ عن الذنوب والقبائح - ۳۲۱:

(۲) شعب الایمان: ۱۸۲/۱۲: ۱ حدیث: ۵۳۵۶: المجال و جواہر العلم: ۲۱۳/۱:

☆ جوڑ کا اسٹار کی سختی نہیں جھیلتا اسے زمانے کی سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں۔

أَصْبَحَتْ فِي عُمُرٍ يَنْقُصُ وَذُنُوبٍ تَزِيدُ . (١)
 لِيْعَنِي مِيرِي صِحَّ اسْ حَالٍ مِّنْ هُوَتِي هِيَ كَعْرَقُ الْجُثُّ رَهِيْ هُوَتِي هِيَ كَمَرْجُنَاهُ بِرَدِّهِ
 رَهِيْ هُوَتِي هِيَنِ - .

حضرتِ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک روز میں قبرستان کی طرف چلا۔ دیکھا کہ
 دو خوب نوجوان بیٹھے کچھ لکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا: اللہ تم پر رحمت فرمائے تم لوگ کون
 ہو؟ بولے: ہم فرشتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر محبوبان بارگاہِ الٰہی کی فہرست تیار کر رہے ہیں۔
 میں نے کہا: میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں تھج تانا کہ میرا اس میں کہیں ذکر ہے
 کہ نہیں؟ بولے: نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔

جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا: کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ واسطے میر انام بھی کہیں
 نچلی سطروں میں لکھ لو کہ مالک بن دینار طفیل ہے جس کا دل اللہ سے محبت کرنے والوں کی
 محبت سے آباد و منور ہے؟ پھر جب رات ہوئی تو مجھے خواب میں بتایا گیا کہ تیر انام بھی ان
 محبین کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے؛ کیوں کہ انسان اصولاً اپنے چاہنے والے کے
 ساتھ ہی ہوا کرتا ہے۔ (۲)

حضرتِ مالک بن دینار نے فرمایا :

نَحْنُ رَهَانِ الْأَمْوَاتِ، وَهُمْ مُحْتَسِبُونَ حَتَّى تَرَدَ إِلَيْهِمُ الرَّهَانُ
 فِي حِشْرُونَ جَمِيعًا ثُمَّ غَشِيَ عَلَيْهِ . (۳)

لیکن ہم مردوں کے رکھے ہوئے رہن ہیں، اور وہ خود مبتلائے حساب ہیں، پھر
 ایک وقت آئے گا کہ رہن ان کے پاس پہنچ جائیں گے، اور دونوں کا حشر ایک
 ساتھ ہوگا۔ اتنا کہتے اور آپ پر غشی طاری ہو جاتی۔

(۱) احیاء علوم الدین: ۲۰۷۔

(۲) شعب الایمان تہجی: ۳۲۲/۲ حديث: ۳۹۱..... تارتخ دمشق: ۵۲/۳۰۱۔

(۳) حلیۃ الاولیاء: ۱/۳۸۰۔

☆ اپنے آپ کو اتنا بندہ کر لیں کہ لوگ آپ کو حقیر نظر آ ن لگیں۔

حضرت حارث بن سعید روایت کرتے ہیں کہ ہم مالک بن دینار کی مجلس میں موجود تھے اور ایک قاری قرآن کریم کی تلاوت سے دلوں کو مظوظ کر رہا تھا۔ پھر اس نے سورہ زلزال پڑھنا شروع کر دی، یہ سن کر حضرت مالک بن دینار پر کچھی طاری ہو گئی اور دیگر اہل مجلس چیخنے اور چلانے لگے۔ پھر جب وہ اس آیت پر پہنچا:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ
تو جس نے ذرہ بھرنیکی کی ہو گئی وہ اسے دیکھ لے گا۔

تو خدا کی قسم! میں نے دیکھا کہ حضرت مالک بن دینار زار و قطار رونے لگے، آپ کی ہچکیاں بندھ گئیں، اور بالآخر آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر ایک مردہ لاش کی طرف مجلس سے اٹھا کر آپ کو (منزل تک) پہنچایا گیا۔ (۱)

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی نوجوان کی عیادت کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ وہ بستر مرگ پر بے بس پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس سے احوال پوچھھے تو اپنی زبان سے وہ جواب نہ دے سکا، اپنی آنکھوں کے اشارے سے اپنی خیریت بتائی۔ ابھی ہم اس کے پاس ہی تھے کہ اتنے میں موزن کی اذان سنائی دی تو اس نے نہ صرف یہ کہ اذان کا جواب دیا بلکہ شہادتیں کے وقت اپنی انگلی شہادت بھی اٹھائی۔

پھر اس کے بیٹوں نے اسے وضو کرایا اور قبلہ روکر دیا اس نے لیئے ہی اشارے سے نماز آدا کی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا: اے مالک! ایمان کی رمق باقی ہو تو مولا کی آزمائش میں بھی قلبی راحت و سکون ملتا ہے۔ اے مالک! ذرا سوچو کہ اس کی نعمتیں کیسی بے انتہا ہیں مگر آزمائش صرف ایک ہے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ اس کے صبر و یقین اور محبت و وفا کی سچائی کو دیکھ کر میں ورطہ حریرت میں آگیا، پھر ذرا دیر ہوئی کہ اس کی روح قفس عضری سے پرواہ کر گئی۔ (۲)

(۱) الرقة والبكاء ابن أبي الدنيا: ۹۲، رقم: ۸۹۔

(۲) الواقعۃ فی ذکر الموت: ۱۱۱، رقم: ۱۳۱۔

☆ انسان زندہ رہ کر زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، تو وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے!

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ بصرہ کے کسی شخص نے ماہ رمضان کی آمد پر ایک کنیر خریدی۔ اس کنیر نے دیکھا کہ یہ شخص تو کھانے پینے کی چیزیں خرید رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ یہ سب چیزیں خرید کر آپ کیا کریں گے؟۔

کہنے لگا: ماہ رمضان کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سن کروہ لوٹدی کہنے لگی: قسم بخدا! میں ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا سال ماہ رمضان کی طرح ہوا کرتا تھا۔ قسم بخدا! میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی۔ (۱)

کیفیت ولايت

حضرت مالک بن دینار سے کسی ملحد کا مناظرہ ہو گیا اور دونوں اپنے کو حق پر کہتے رہے حتیٰ کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈالے جائیں، پھر جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اسی کو حق پر تصور کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا؛ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی کوئی ضرر نہیں پہنچا۔

لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں برحق ہیں؛ لیکن آپ نے کبیدہ خاطر ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مولا! ستر سال میں نے عبادت میں گزار دیے مگر تو نے مجھے ایک ملد کے برابر کر دیا۔

ند آئی کہ اے مالک بن دینار! تمہارے ہاتھ کی برکت ہی سے ایک ملحد کا ہاتھ بھی آگ سے نجی گیا۔ اور اگر وہ تنہ آگ میں ڈالا جاتا تو یقیناً جل کر راکھ ہو جاتا۔ (۲)

ایک مرتبہ جب حضرت مالک بن دینار شدید بیمار ہو کر صحت یا ب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت بہت ہی دشواری سے بازار تشریف لے گئے؛ لیکن اتفاق سے اسی وقت

(۱) الجالس و جواہر العلم: ۳۱۸/۱۔

(۲) تذكرة الاولیاء مترجم: ۲۹۔

☆ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔

بادشاہ وقت کی سواری آرہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ نہنے میں تاخیر ہو گئی اور پھر بیداروں نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ حالت کرب میں آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا: خدا کرے کہ تیرے ہاتھ قطع کرادیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ کر چورا ہے پر ڈال دیے گئے؛ لیکن آپ کو اُس کی یہ حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔^(۱)

اور ان کا کیا دھرا سب آکارت گیا!

حضرت صالح المری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ میرے پاس آئے اور فرمائے گے: کل صبح فلاں جگہ پہنچ جانا، میرے کچھ اور دوست بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر ہم حضرت ابو جہیز سے ملاقات کے لیے چلیں گے۔ میں نے کہا: ٹھیک ہے۔ میں مقررہ وقت پر وہاں پہنچ جاؤں گا۔

جب صبح میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت مالک بن دینار مجھ سے پہلے ہی وہاں موجود ہیں؛ نیز ان کے ساتھ حضرت محمد بن واسع، حضرت ثابت بن انبیاء، اور حضرت حبیب بھی موجود تھے۔ میں نے ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر دل میں کہا: اللہ کی قسم! آج کا دن بہت ہی خوش گوار ہو گا۔ چنانچہ ہم سب حضرت ابو جہیز کی طرف چل دیے۔

حضرت ابو جہیز کا معمول یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ مخصوص کر کھی تھی۔ آپ بصرہ میں صرف نمازِ جummah کے لیے تشریف لاتے، اور نماز کے فوراً بعد واپس تشریف لے جاتے۔

حضرت صالح المری فرماتے ہیں کہ دورانِ سفر ہم ایک انتہائی خوبصورت جگہ سے گزرے تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا: اے ثابت! اس جگہ نماز پڑھ لیتے ہیں؛ کل بروز قیامت یہ جگہ ہماری گواہی دے گی۔

(۱) تذكرة الاولیاء مترجم: ۲۹

☆ انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم ہاتا ہے۔

پھر ہم حضرت ابو جہیز کے گھر پہنچے اور ان کے متعلق پوچھا تو تپا چلا کہ وہ نماز پڑھنے گئے ہیں۔ ہم ان کا انتظار کرنے لگے، کچھ ہی دیر کے بعد وہ تشریف لائے۔ چہرے پر افسردگی طاری تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی قبر سے نکل کر آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مختصر سی نماز پڑھی اور نہایت غمگین حالت میں ایک جگہ بیٹھے گئے۔

ان سے مصافحہ کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرت محمد بن واسع آگے بڑھے، سلام کیا۔ حضرت ابو جہیز نے جواب دے کر پوچھا: تم کون ہو، میں تمہاری آواز نہیں پہچان پایا؟۔ حضرت محمد بن واسع نے عرض کیا: میں بصرہ سے آیا ہوں۔

پوچھا: تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا: میرا نام محمد بن واسع ہے۔ یہ سن کر فرمانے لگے: مر جبار جبا! کیا تم ہی محمد بن واسع ہو جن کے متعلق بصرہ والے یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت والے یہی ہیں۔ خوش آمدید بیٹھ جائیے۔

پھر حضرت ثابت بن ابی نے سلام کیا۔ ان سے بھی نام پوچھا تو انہوں نے بتایا: میرا نام ثابت بن ابی ہے۔ یہ سن کر وہ فرمانے لگے: مر جبا، اے ثابت! کیا تمہارے ہی متعلق لوگوں میں مشہور ہے کہ سب سے زیادہ لمبی نماز پڑھنے والے ثابت بن ابی ہیں۔ خوش آمدید، تشریف رکھیے۔

پھر حضرت حبیب سلام کے لیے حاضر ہوئے، ان سے پوچھا: تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا: حبیب۔ فرمایا: کیا تم ہی وہ حبیب ہو جن کے متعلق مشہور ہے کہ اللہ کے سوا کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے، خوش آمدید، تشریف رکھیں۔

پھر حضرت مالک بن دینار نے سلام کیا، اور جب اپنا نام بتایا تو فرمایا: مر جبا، مر جبا، اے مالک بن دینار! آپ ہی کے متعلق مشہور ہے کہ آپ سب سے زیادہ ریاضت و مجاہدہ کرنے والے ہیں۔ اس طرح انھیں بھی اپنے پاس بٹھایا۔

پھر میں (صاحب المری) سلام کے لیے حاضر ہوا۔ جب میرا نام پوچھا تو میں نے اپنا نام

☆ جب ہماری تھنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملت۔

بتایا، فرمانے لگے: اچھا! تمہارے ہی متعلق مشہور ہے کہ تم قرآن بہت عمدگی اور خوش نغمگی سے پڑھتے ہو۔ میری بڑی خواہش تھی کہ تم سے کبھی قرآن سنوں۔ آج مجھے قرآن سناؤ۔

حکم ملتے ہی میں نے تلاوت شروع کر دی۔ خدا کی قسم! ابھی میں اعوذ باللہ من الشیطین الرجیم بھی مکمل نہ کر پایا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب افاقت ہوا تو فرمانے لگے: اے صالح! مجھے میرے رب کا کلام، قرآن سناؤ۔ چنانچہ میں نے یہ آیت تلاوت کی:

وَقَدِمْنَا إِلَيْيَ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُرًا ۝ (سورہ

فرقان: ۲۴/۲۵)

اور (پھر) ہم ان اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے جو (بزمِ خویش) انہوں نے (زندگی میں) کیے تھے تو ہم انہیں بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔

جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی، ایک جیخ ماری اور پھر ان کے گلے سے عجیب و غریب اواز آنے لگی اور تڑپنے لگے، پھر یکدم ساکت ہو گئے۔ ہم ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ان کی روح نفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔

ہم نے لوگوں سے پوچھا: کیا ان کے گھر والوں میں سے کوئی موجود ہے؟۔ لوگوں نے بتایا: ایک بوڑھی عورت ان کی خدمت کرتی ہے۔ جب اس بوڑھی عورت کو بلا یا گیا تو اس نے پوچھا: کس طرح ان کا انتقال ہوا؟۔ ہم نے بتایا: ان کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی گئی جسے سنتے ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔

اس عورت نے پوچھا: تلاوت صالح المری نے تو نہیں کی تھی؟۔ ہم نے کہا: جی ہاں! تلاوت تو صالح المری ہی نے کی تھی لیکن تم انہیں کس طرح جانتی ہو؟۔ کہنے لگی: میں انہیں جانتی تو نہیں تاہم حضرت ابو جہیزہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے سامنے قاری صالح المری نے تلاوت کی تو میں ان کی تلاوت سنتے ہی مر جاؤں گا۔

پھر اس عورت نے کہا: خدا کی قسم! حضرت صالح المری کی پرسو ز آواز نے ہمارے

☆ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔

محبوب کو قتل کر ڈالا۔ یہ کہہ کروہ عورت زار و قطار رونے لگی۔ پھر ہم سب نے مل کر حضرت ابو جہیز کی تکفین و تدفین کی۔^(۱)

خواہشوں پر کنٹرول ہر خیر کا سرچشمہ

حضرت مالک بن دینار کو یہ کہتے سنائیا :

ما ينبغي للعاقل أن يملأ نفسه أمرها في شهواتها من المطعم
و الملبس .^(۲)

یعنی کسی صاحب عقل کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کھانے پینے اور پہننے اور ہنے کے سلسلے میں خواہشاتِ نفسانی کو بالکل بے لگام اور آزاد چھوڑ دے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

من ملک بطنہ ملک الاعمال الصالحة کلها .^(۳)

یعنی جس نے اپنے پیٹ پر کنٹرول کر لیا تجوہ اس نے سارے اعمال صالحہ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔

حضرت مالک بن دینار نے فرمایا :

الشبع يقسى القلب ويفتر البدن .^(۴)

یعنی پیٹ بھر کھانا دل کو سخت و بے مرودت اور بدن کو نحیف و ناتوان کر دیتا ہے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

(۱) معین الحکایات ابن الجوزی: ۱۰۳ تا ۱۰۴.

(۲) الجوئع ابن ابی الدین: ۱۹۳ / ۱ احادیث: ۱۲۵..... بریقتہ محمودینی شرح طریقہ محمدیہ و شریعتہ نبویہ: ۳۶۹ / ۲۔

(۳) الجوئع ابن ابی الدین: ۱۵۱ / ۱ احادیث: ۹۹۔

(۴) الجوئع ابن ابی الدین: ۱۵۰ / ۱ احادیث: ۹۸۔

☆ بے نمازی کو قرض نہ دیں۔ جو شخص خدا کی پرواہ نہیں کرتا وہ آپ کے قرض کی کیا پرواہ کرے گا!

بئس العبد عبد همه هواه و بطنه . (۱)
یعنی وہ بندہ کتنا گیا گز را ہے جس کی ساری توجہ اس کی نفسانی خواہشات اور اس کا پیٹ ہو۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

ما ینبغی للمؤمن ان یکون بطنه أکبر همه، و ان یکون شهوته هي الغالبة عليه . (۲)

یعنی کسی مؤمن کی یہ شان نہیں کہ اس کی تنگ دودکا حصل محض اس کا پیٹ ہو۔ اور شہوات و خواہشات اس پر حکمرانی کریں۔

حضرت ابن شوذب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار اور محمد بن واسع نے کسی محفل میں بیٹھ کر ذریعہ معاش کے تعلق سے گفتگو کرنا شروع کی۔ حضرت مالک نے کہا: وہ شخص کتنی پر لطف اور خوشگوار زندگی بسر کرتا ہو گا جس کے پاس ہر چیز کی فروانی ہو۔ حضرت محمد بن واسع نے فرمایا: مگر میں تو اُس کی زندگی کو قابل مبارک گردانتا ہوں کہ جس کے پاس ناشتہ ہوتی رات کا کھانا میسر نہ ہو، اور اگر رات کا کھانا پاس ہو تو ناشتہ میسر نہ ہو، اور اس حال میں بھی وہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ اس سے راضی۔ (۳)

حضرت مالک بن دینار کو یہ کہتے سنائیا :

يقولون الجهاد، أنا من نفسي في الجهاد . (۴)

یعنی لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی باتیں کر رہے ہیں؛ حالاں کہ تاہنوں میں جہاد فس سے بھی فراغت نہیں پاس کا ہوں۔

(۱) ابو ع ابن ابی الدنیا: ۱/۲۳۰ حدیث: ۱۳۲۔

(۲) جامع العلوم والکتب: ۲/۲۷۔

(۳) تذكرة الحفاظ: ۳/۱۲۲۱۔

(۴) حلیۃ الاولیاء: ۱/۳۲۲۔

☆ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے؛ لیکن خود سچا دوست بننے کی زحمت گوار نہیں کرتا!

حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے ایک استاد حضرت عبداللہ داری نے فرمایا :

إن تسرك أن تبلغ ذروة هذَا الْأَمْر فاجعِل بِينكَ وَبَيْنَ
الشَّهُواتِ حائِطاً مِنْ حَدِيدٍ . (۱)

یعنی اے مالک! اگر تم اس معاملہ (دین) کی بلندی تک پہنچنے کے آرزو مند ہو تو اپنے اور نفسانی شہوتوں کے درمیان ایک آہنی دیوار چین دو۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پادری کے گرجا گھر سے میرا گزر ہوا تو میں نے اسے آواز دی، وہ آیا اور آکر محظی تگو ہو گیا، اپنی باتوں میں اس نے یہ بات بھی کہی تھی :

إِنْ أَسْتَطَعْتُ أَنْ تَجْعَلْ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهُواتِ حَائِطاً مِنْ
حَدِيدٍ فَافْعُلْ وَإِيَّاكَ وَكُلَّ جَلِيسٍ لَا تَسْتَفِيدْ مِنْهُ خَيْرًا فَلا
تَجَالِسْهُ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا . (۲)

یعنی اگر تم اپنے اور شہوتوں کے درمیان کوئی آہنی دیوار چن سکتے ہو تو چن دو۔ اور جس دوست سے تمہیں کسی اکتساب خیر کی توقع نہ ہو تو اس کی مجالست و نشست سے بہر حال اجتناب کرنا، وہ قریبی ہو یا دور کا۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

الجلوس مع الكلب خيرٌ من الجلوس مع رفيق سوء . (۳)
یعنی برے دوستوں کی صحبت میں رہنے سے بہتر ہے کہ آدمی کتنے سے دوستی کر لے (یعنی جس طرح بھی ہو یا ان بد سے نجگے کر رہے)۔

(۱) الرہاکبیر تہیی: ۳۱۵ حدیث: ۳۱۱.....الجالس وجواہر العلم: ۲۵۲۔

(۲) الرہلاحمد بن خبل: ۳۸۰/۳: حدیث: ۱۹۲۷۔

(۳) الامتناع والمواانته: ۱۰۸/۱۔

☆ بدترین شخص وہ ہے جو تو پر کی امید پر گناہ کرتا ہے اور زندگانی کی امید پر تو برا۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

نعم حاجب الشهوات غض البصر . (۱)

یعنی شہوتوں پر کنٹرول کرنے کا کامیاب ترین علاج یہ ہے کہ نگاہیں نیچے کر لی جائیں۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

لو اُنی اعلم ان قلبي يصلح على کناسة لجلست عليها . (۲)

یعنی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کوڑا کر کٹ پر بیٹھنے سے میرا دل سدھ رجائے گا تو میں اس پر بیٹھنے سے بھی دربغ نہیں کروں گا۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

جاہدوا اهواء کم کما تجاہدون أعداء کم . (۳)

یعنی تم ہوا و ہوس اور اپنی نفسانی خواہشات سے ایسے ہی نبرداز مارہا کرو جس طرح اپنے دشمنوں کے ساتھ پنج آزمائی کرتے رہتے ہو۔

حضرت مالک بن دینار سے مروی ہے وہ چالیس برس تک دودھ پینے کی آرزو کرتے رہے لیکن پیا نہیں۔ ایک روز ان کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئیں، تو لوگوں نے کھانے کے لیے اصرار کیا۔ آپ نے فرمایا: تم ہی کھالو، میں نے چالیس برس سے اسے ہاتھ نہیں لگایا۔ (۴)

(۱) الاعجاز والایجاد: ۲۱/۱۔

(۲) طیب الاولیاء: ۱/۳۷۶۔

(۳) الکامل فی اللخ و الدادب: ۱/۵۵..... ربع الابرار: ۲۱۸/۱..... نثر الدرر: ۱/۳۱۷۔

(۴) احیاء علم الدین: ۳/۱۵۳۔

☆ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا!

حضرت مالک بن دینار بصرہ میں پچاس برس تک رہے لیکن نہ انھوں نے وہاں کی کھجوریں کھائیں اور نہ خرم کھائے۔ ایک مرتبہ اہل بصرہ سے فرمایا: اے بصرہ والو! میں تم میں پچاس برس رہا ہوں، اس دوران میں نے تمہاری خشک و تر کھجوروں سے کوئی سروکار نہ رکھا، اس کے باوجود نہ بھجھ میں کوئی کمی آئی ہے اور نہ تم میں کچھ زیادتی پیدا ہوئی ہے۔^(۱)

رونے سے گناہ و حلتے ہیں

حضرت حازم بن حسین کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا :
البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما يحط الريح الورق
الیابس .^(۲)

یعنی جرم و خطأ کو یاد کر کے رونا غلطیوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جس طرح ہوا (کے جھونکے) خشک پتوں کو (ٹھینیوں سے) جھاڑ دیتے ہیں۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :
یا إخواته والله لو ملكت البكاء لبكيت أيام الدنيا .^(۳)
یعنی اے بھائیو! اگر رونا میرے اختیار میں ہوتا تو میں ساری عمر روتا ہی رہتا۔
حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ اس قدر روتے کہ آنسوؤں کے بھاؤ نے آپ کے خدو خال تک سیاہ کر دیے تھے؛ مگر پھر بھی اپنی حضرت یہ بیان کرتے ہیں :
لو ملكت البكاء لبكيت أيام حياتي .^(۴)

(۱) احیاء علوم الدین: ۱۵۳/۳: ۱۵۳/۳:

(۲) التوبہ ابن ابی الدنيا: ۱/ ۳۲۵ حدیث: ۱۸۳..... الرقة والبكاء: ۱/ ۲۶۷ حدیث: ۲۳..... جامع العلوم والحكم: ۱۹/ ۳۸..... الزوابجی اقتراف الکبار: ۱/ ۳۹۔

(۳) الرقة والبكاء: ۱/ ۲۲۹ حدیث: ۲۱۵..... مواعظ ابن الجوزی: ۱/ ۲۱۔

(۴) الزهر الفارغ فی ذکر من تنزه عن الذنب والقبائل: ۱/ ۲۱۔

☆ دفع خص جعل رکے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دواتر ہے؛ مگر علاج نہیں کرتا!

یعنی اگر مجھے رو نے پر اختیار کا مل حاصل ہوتا تو میں اپنی پوری زندگی رورو کری
بر کر دیتا۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ انسانی شیطان جناتی شیطان سے کہیں زیادہ
شہزاد اور فتنہ سامان ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب میں نے ”اعوذ بالله“ پڑھ کر اللہ کی
پناہ چاہی تو جناتی شیطان تو مجھ سے فوراً رفوچکر ہو گیا مگر انسانی شیطان (اولاً تو بھاگا
نہیں مزید برآں) مجھے کھلے بندوں گناہوں کی طرف کھیچ کر لے جانے کی ٹوہ میں مستقل
لگا رہا۔ (۱)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن (شیطان) تمہیں ہمہ وقت دیکھ
رہا ہے مگر تم اسے نہیں دیکھ پاتے، کیوں کہ وہ ہے بڑا جھٹکا لو۔ اور جب تک اللہ کی توفیق
 شامل حال نہ ہو کوئی اس کے دام ہرنگ زمین سے نجٹ نہیں پاتا۔ (۲)

داستانِ گریہ و بکا

حضرت جعفر بن سلیمان روایت کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار ایک روز
خطاب فرمائے تھے اور ان کے خطاب کے دوران حضرت حوشب بن مسلم اتفاقی روپرے
اور اتنا رونے کے ان سے گریہ وزاری کی آواز بلند ہونے لگی، حضرت مالک بن دینار نے
جب ان کی چیخ سنی تو ان کے کامن ہے پر اپنے ہاتھوں سے مارتے ہوئے فرمایا:

ابک يا أبا البشر فإنه بلغني أن العبد لا يزال يسكي حتى يرحمه

سیده فيعتقه من النار . (۳)

- (۱) تفسیر قرطبی: ۲۸..... تفسیر الباب لا بن عادل: ۱۳۳..... تفسیر نسیاپوری:
۳۲۲..... تفسیر خازن: ۲..... تفسیر نسیاپوری: ۳۲۳، ۳۲۹.
- (۲) تفسیر بنوی: ۲۲۲..... تفسیر بحر محيط: ۵/۲۳۶..... تفسیر نسیاپوری: ۳۰۰/۳.
- (۳) الرقة والبكاء ابن أبي الدنيا: ۱/۱۹ احادیث: ۷۸.

☆ جلوگ فائدہ میں کسی کو شریک نہیں کرتے، نقصان میں بھی ان کا کوئی شریک نہیں ہوتا!

یعنی اے ابوالبشر حوشب! جی بھر کے رو لے کیوں کہ سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ جب روتا ہے تو اس کے رو نے کو دیکھ کر اس کے مالک و مولا کو اس پر رحم و ترس آ جاتا ہے اور وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ اس کے نام جاری کر دیتا ہے۔

حضرت جعفر بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار کو مسجد میں دیکھا۔ اور پورے اہل مسجد کا حال یہ تھا کہ جنت و دوزخ کا کوئی ذکر چھڑے بغیر ہی سارے اہل مسجد رور ہے تھے۔ (۱)

کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار کا مصحف چوری ہو گیا۔ آپ نے اپنے دوست آشاؤں کو وعظ و نصیحت کیا۔ آپ کا بیان سن کر ہر کوئی گریہ و زاری کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا: ہر شخص محو آہ و فقاں ہے مگر یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ مصحف چدایا کس نے ہے؟ (۲)

حضرت ہشام بن حسان کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت مالک بن دینار کی معیت میں حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں ہوا۔ جس وقت ہم ان کے پاس پہنچے وہ ایک خوش الحان قاری سے قرآن کریم کی تلاوت سن رہے تھے۔ جب اس نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی:

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝ مَا لَهُ مِنْ ذَافِعٍ ۝ (سورة طور: ۷، ۸)

بیٹک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔

اس آیت کو سنتے ہی حضرت حسن بصری زار و قطار رونے لگے، انھیں دیکھ کر مجلس میں موجود دیگر حضرات بھی گریہ کنان ہو گئے؛ مگر حضرت مالک بن دینار کا حال یہ تھا کہ وہ ماہی

(۱) اخبار اصحاب: ۲۵۹/۲ حدیث: ۵۲۶..... مجمع ابن المقری: ۹/۲۷ حدیث: ۷۷۔

(۲) حلیۃ الاولیاء: ۱/۳۸۷

☆ محبت مزان بن جاتی ہے، جن لوگوں کا مزان نفرت ہو، انھیں محبوب کا راستہ نہیں ملaka رتا!

بے آب کی طرح تڑپنے لگے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گرد پڑے۔ (۱)

صد بار اگر تو بہ شکنی بازاً !

کہا جاتا ہے کہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کا ایک چچا زاد بھائی بادشاہ وقت کا کارگزار تھا، ظلم و زیادتی اس کی سرشنست میں داخل تھی۔ ایک بار اس پر کسی مرض نے حملہ کیا تو اس نے منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے اس مرض سے نجات بخش دی تو اب بادشاہی کارگزار یوں سے میں ہمیشہ کے لیے دست بردار ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ نے اسے اس مرض سے نجات عطا فرمادی۔

تن و منند ہونا تھا کہ اس نے پھر وہی کام شروع کر دیا اور پہلے سے زیادہ لوگوں پر ظلم و قسم ڈھانا شروع کر دیا۔ اللہ کا کرنا کہ پھر گرفتارِ بلا ہو گیا اور نذر مانی کہ اگر اب اس بیماری سے خلاصی جان مل گئی تو امورِ سلطنت کی طرف کبھی نہیں لوٹ کر آؤں گا۔ چنانچہ پھر اسے شفافی گئی مگر اس نے عہد شکنی کی اور لوگوں پر جور و جفا کا بازار اور زیادہ گرم کر دیا۔ اب وہ کسی شدید ترین بیماری میں گرفتار ہو گیا اور اسے امید زیست نہ رہی۔

حضرت مالک بن دینار کو اطلاع ہوئی تو آپ اس کی عیادت کے لیے پہنچے، اور کہا: بیٹے! منت مان لے اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کا عہد کر لے شاید تجھے اس مرضِ مہلک سے نجات مل جائے۔ اس نے عرض کیا: میں اللہ سے کئی بار وعدہ کر چکا ہوں کہ اگر میں بستر عالالت سے صحیح سالم ہو کر اٹھا تو پھر امورِ سلطنت کی طرف کبھی رخ نہیں کروں گا۔ اتنے میں ہاتھ غبی سے آواز آئی:

اے مالک! ہم نے اس کا بارہا تجربہ کیا اور اسے کئی موقعے دیے مگر یہ پا عہد شکن اور پورا جھوٹا نکلا؛ لہذا اب اسے مزید کسی منت و نذر کی مہلت نہیں دی جائے گی۔

(۱) الرقة والبكاء ابن ابي الدنيا: ۹۶ / حدیث: ۹۱

☆ اپنے متعلق آپ خود کچھ نہ کہیے، یہ کام آپ کے جانے کے بعد ہو جائے گا۔

چنانچہ وہی مرض اس کے لیے باعث موت بن گیا اور وہ اسی حالت میں دنیا چھوڑ گیا۔ یہ واقعہ ”روضۃ العلما“ میں بھی نقل ہوا ہے۔^(۱)

سفرج کی روح پرورداستانیں

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں: میں حج بیت اللہ کی نیت سے نکلا۔ راستے میں اچانک ایک نوجوان سے ملاقات ہو گئی، جس کے پاس نہ تو شہ تھا نہ تو شہدا نہ اور نہ ہی کوئی سواری۔ علیک سلیک کے بعد میں نے اس سے پوچھا: کہاں سے آرہے ہو؟ کہا: اُس کے پاس سے۔ پوچھا: کہاں جا رہے ہو؟ کہا: اس کی طرف۔ پوچھا: زادِ راہ کہاں ہے؟ کہا: اس کے ذمہ کرم پر۔

میں نے کہا: راستہ کافی کھٹھن ہے یوں اتنی آسانی سے بلاپانی دانہ تو نہیں کٹ جائے گا۔ کیا تمہارے پاس کچھ زادِ راہ ہے۔ کہا: ہاں۔ پانچ حروف کو میں اپنا زادِ راہ بناؤ کر گھر سے نکلا ہوں۔ پوچھا: یہ پانچ حروف کیا ہیں؟ کہا: کھیعص۔

میں نے پوچھا: یہ کھیعص کا کیا مطلب ہے؟ کہا: ک سے مراد کافی۔ ھ سے مراد ہادی۔ ی سے مراد مَوْدَی (جگہ دینے والا)۔ ع سے مراد عالم۔ اور ص سے مراد صادق ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جس کا ہم سفر کافی، ہادی، مَوْدَی، عالم اور صادق ہو، اسے اور کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے!۔ جس کا معاون اتنی خوبیوں کا حامل ہو اسے نہ تو اپنے ضیاع کا خوف ہوتا ہے اور نہ اسے کسی زادِ راہ کی حاجت ہوتی ہے!

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی یہ تفسیر نہیں سنی تو میں نے اپنی قیص اُتار کر اسے پہناد دینا چاہی، مگر اس نے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا: اے شیخ! اس فنا کے گھر میں یہ بے لباسی، قیص سے بہتر ہے۔ یہاں کے حلال پر حساب

(۱) تفسیر روح البیان: ۱/۱۰۱۔

☆ ہمیشہ سمجھو ہو کر نایا کیسیں؛ کیوں کہ ٹھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے تو ڈینے سے بہتر ہے۔

دینا ہوگا اور یہاں کے حرام پر سزا اور سزا ہونا پڑے گا۔ پھر جب رات کی تیرگی چھائی تو اس نے اپنارخ آسمان کی سمت اٹھا کر کہنا شروع کر دیا :

يَا مِنْ تَسْرِهِ الطَّاعَاتِ وَ لَا تَضُرِهِ الْمَعَاصِي هَبْ لِي مَا يُسْرُكَ وَ
أَغْفِرْ لِي مَا لَا يَضُرُكَ .

یعنی اے وہ ذات! نیکیاں ہے بھائی ہیں اور بد کاریاں ہے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ مجھے ایسے امور کی توفیق مرحمت فرمائو تجھے خوش کر سکیں۔ اور میری ان خطاؤں کو درگز فرمادے جو تجھے کچھ بھی ضرر نہیں دے سکتیں۔

پھر جب لوگوں نے حج کا احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنا شروع کیا۔ تو میں نے پوچھا: تم تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا: اے شیخ! مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر سے تو میں لا بیک کہہ کر اپنی حاضری درج کراؤں اور ادھر سے جواب آئے کہ لا بیک۔ یعنی ہمیں نہ تمہاری حاضری منکور ہے، نہ تمہاری نیکیاں قبول ہیں، اور نہ ہی ہم تمہاری با تین سنیں گے اور نہ تمہاری طرف نظر رحمت کریں گے۔ پھر میں نے وادی منی میں اسے اس حال میں دیکھا کہ اس کے بیوں پر یہ کلمات جاری تھے :

اللَّهُمَّ إِنَّ النَّاسَ ذَبَحُوا وَ تَقْرِبُوا إِلَيْكَ بِضَحَايَاهُمْ وَ هَدَايَاهُمْ وَ
لَيْسَ لِي شَيْءٌ أَتَقْرَبُ بِهِ إِلَيْكَ سُوَى نَفْسِي فَتَقْبِلُهَا مَنِي ثُمَّ شَهَقَ
شَهْقَةً فَخَرَّ مِيتًا . وَ إِذَا قَاتَلَ يَقُولُ : هَذَا حَبِيبُ اللَّهِ هَذَا قَتِيلُ اللَّهِ
قُتْلَ بِسَيْفِ اللَّهِ فَجَهَزَهُ وَارِيَتُهُ وَ بَتِ الْلَّيْلَةِ مُتَفَكِّرًا فِي أَمْرِهِ وَ
نَمَتْ فِرَأْيَتُهُ فِي مَنَامِي فَقَلَتْ مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ قَالَ فَعُلَّ بِي كَمَا فَعَلَ
بِشَهِدَاءِ بَدْرٍ قَتَلُوا بِسَيْفِ الْكُفَّارِ وَ أَنَا قُتُلْتُ بِسَيْفِ الْجَبَارِ .

یعنی اے پروردگار! لوگ اپنی اپنی قربانیاں پیش کر کے تیرا مقامِ قرب حاصل کر رہے ہیں، اور میرے پاس سوائے میری اپنی جان کے اور کوئی چیز نہیں جس کو

☆ مصائب سے نہ گبرا کیں؛ کیوں کہ ستارے اندھیرے میں ہی پچلتے ہیں۔

پیش کر کے میں تیر تقرب حاصل کر سکوں؛ لہذا اسے میری طرف سے قبول فرماء۔
اتنا کہہ کر اس نے ایک گہری سانس بھری، ذریحکی سی آئی اور وہیں مردہ لاش بن کر
ڈھیر ہو گیا۔ پھر پرداہ غیب سے کسی کہنے والے نے کہا: یہ اللہ کا دوست تھا، اور
شمشیر قدرت سے قتل ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے تجھیز و تکفین کے بعد اس
کی تدفین کی اور اس رات اس کے معاملات میں غور و خوض کرتے کرتے
وہیں سورا۔ خواب میں اس کی زیارت ہوئی تو پوچھا: اللہ نے تمہارے ساتھ کیا
معاملہ کیا؟ کہا: پروردگارِ عالم نے میرے ساتھ کچھ وہی سلوک کیا جس طرح اس
نے شہداء بدر کے ساتھ کیا تھا۔ (فرق صرف اتنا تھا کہ) وہ کفار کی تواروں
سے شہید ہوئے تھے اور میں جبار کی توارے سے۔ (۱)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے مک کے اندر ایک عورت کو دیکھا جس
کی آنکھیں بلا کی حسین تھیں، ایسی آنکھیں شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہوں۔ عورت میں آ
کر اس کی چشمائی سحر طراز کا معاشرہ کرتی تھیں۔

اتنے میں اس نے پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ اتنا نام روکہ
اپنی آنکھوں ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بولی: اگر میں اہل بہشت سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے
اس سے کہیں زیادہ خوبصورت آنکھیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر جہنمیوں میں سے ہوں تو پھر
اس سے بھی زیادہ تکلیف اسے اٹھانا ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اتنا روئی کر اس کی ایک آنکھ جاتی
رہی۔ اللہ اس پر حرم فرمائے۔ (۲)

حضرت جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مالک بن دینار کی معیت میں
میرا مکہ جانے کا اتفاق ہوا۔ چنانچہ احرام باندھنے کے بعد جب انہوں نے تلبیہ کہنا چاہا

(۱) تفسیر روح البیان: ۹۳۰۔ المسطر فی کل فنِ متظرف: ۱۵۶۔

(۲) صفت الصفة: ۱۴۰۔ ۲۲۰۔

☆ ہر ناکامی کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے بشرطیکہ ناکامی کے بعد ماپوس نہ ہو جائے۔

تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر افاقہ ہونے کے بعد کہنا چاہا مگر پھر ان پر غشی طاری ہو گئی، پھر جب ہوش میں آئے تو تلبیہ کہنا چاہا مگر پھر بے ہوش ہو گئے۔

میں نے پوچھا: اے ابو عجیٰ! مالک! یہ کیا ماجرا ہے؟ - فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ کہیں ادھر سے تو میں لبیک (حاضر ہوں) کہوں اور ادھر سے لا لبیک و لا سعديک (تیری حاضری ہمیں منظور نہیں) کی صدا آجائے۔ (۱)

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سال سفر حج کے دوران میں نے ایک پرندے کو اپنے منہ میں روٹی لیے جاتے دیکھا تو میں بھی اس کے پیچے ہو لیا۔ وہ پرندہ رسی میں بندھے ہوئے ایک بوڑھے شیخ کے پاس آیا، اور رقمہ لقمہ کر کے وہ روٹی اسے کھلانے لگا، پھر اڑان بھری اور تھوڑی دیر میں اپنی چوچی میں پانی لے کر آیا اور اسے لا کر شیخ کے منہ میں انڈیل دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت تجب ہوا۔

مجھ سے رہانے لیا اور میں نے پوچھا: شیخ! آپ کون ہیں؟، کہنے لگے: یکے از جاہج بیت اللہ الحرام ہوں۔ چوروں کی زد میں آگیا تھا، انھوں نے پہلے تومال و متاع لوٹا اور پھر مجھے رسی سے باندھ کر خود چلتے بنے۔ پانچ دن تک میں بھوک پیاس سے نٹھاں رہا۔ پھر میں نے بارگا و خداوندی میں عرض کی:

يا من يجيء المصطري إذا دعاه فأنا مضطرب فارحمني .

یعنی اے بے کسوں کی فریاد رسی کرنے والے، میں مجبور و پریشان حال ہوں
میری مدد کو پہنچ۔

پھر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کوے کو میری خدمت پر مامور فرمادیا۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اسے رسیوں سے آزاد کیا اور ایک ساتھ ہو کر حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ (۲)

(۱) تاریخ دمشق: ۵۲۱۳۔ (۲) نزہۃ المجالس وفتح الوفا کس: ۱/۱۶۲۵۔

☆ دولت پر علم کو ترجیح حاصل ہے؛ کیوں کہ علم سے دولت حاصل ہو سکتی ہے مگر دولت سے علم نہیں!

طوافِ خاتمة کعبہ کے دوران

حضرت جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شب میں خاتمة کعبہ کے طواف میں مصروف تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک بھولی ہی چھوٹی پچھی پر پڑ گئی جو غلافِ کعبہ سے چمٹ کر کہہ رہی تھی :

یا رب ذہبت اللذات، و بقیت التبعات، یا رب کم من شہوة
ساعة قد اورثت صاحبها حزنا طویلا، یا رب أما لک عقوبة و لا
أدب إلا بالنار؟.

یعنی اے پروردگار! بہت سی شہوتوں کی لذتیں جاتی رہیں، صرف ان کا عذاب باقی رہ گیا۔ اے مولا! محض ایک گھنی کی شہوت انسان کو کتنے گہرے حزن و الم میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اے میرے پانہوار! کیا آگ اور دوزخ کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں جسے تو بطور سزا تجویز کرتا یا جس سے تو گندہ گاروں کو تادیب کرتا ہے!

اس طرح اس چھوٹی پچھی کی اپنے مولا سے سرگوشیاں، مناجات اور راز و نیاز کی باتمیں تادم سحر چلتی رہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کا مکالمہ سن کر حضرت مالک اپنا سرپیش کرو نے لگے اور اضطراب و بے کسی کے عالم میں فرمایا: مالک پر اس کی ماں روئے اور اتنا روئے کہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج کی رات اس چھوٹی پچھی نے بازی مار لی ہے۔^(۱)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دورانِ طواف یہ کہتے ہوئے سنا :

اللَّهُمَّ قَبْلَ حِجَّةِ الْأَرْبَعِ فَاقْبِلْ هَذِهِ الْحِجَّةَ، فَقُلْتَ كَيْفَ عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ قَبْلَهَا؟ قَالَ أَرْبَعَ سَنِينَ كَنْتُ أَنْوِي كُلَّ سَنَةٍ أَنْ أَحْجُ

(۱) اخبار مکہ فارمی: ۱۹۵/۲: حدیث: ۲۲۳: اعتلال القلوب خراطی: ۱/۱۳۹: حدیث: ۱۳۰: احیاء علوم الدین: ۱۸۳/۳: المجالس و جواہر العلم: ۱/۳۳۱: حدیث: ۳۳۱.

☆ مختصر کے سامنے پہاڑ کر کر ہیں اور سست کے سامنے کنگر پہاڑ!!!.

و علم نیتی و حججت من عامی فانا خائف أن لا يقبل مني
فعلمت أن النية أفضل من العمل (۱)

یعنی اے اللہ! جس طرح تو نے میرے (سابقہ) چاروں حج قبول فرمائیے ہیں، اسی طرح اس حج کو بھی شرف قبول عطا فرم۔ میں نے حیرت سے پوچھا: تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے حج قبول کر لیے ہیں؟ کہا: چار سال سے میں صرف حج کرنے کی نیت کر رہا تھا تو اسے تو نیتوں کا علم ہے؛ مگر اس سال چونکہ حج کرنے کا بھی اتفاق ہو گیا ہے؛ لہذا مجھے ذر ہے کہ یہ قبول ہونہ ہو۔ (حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اس شخص کے عمل سے مجھ پر واضح ہو گیا کہ نیت عمل سے افضل اور بہتر ہوتی ہے.....)۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول تھا۔ حاج اور معتمرین کی کثرت دیکھ کر نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش! مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ اس سال کس کائن حج و عمرہ مقبول ہو گیا ہے تو میں جا کر ان کو مبارک باد پیش کرتا اور کس کا ٹھکرہ دیا گیا ہے تو جا کر ان کی تعریف کرتا۔

جب رات ہوئی تو میں نے خواب میں کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ اے مالک بن دینار! تم نے حاج و معتمرین کی بابت جانا چاہا ہے تو سن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹے بڑے، مرد و عورت، اور سیاہ و سفید ہر کسی کو بخش دیا ہے، سواے ایک شخص کے؛ کیوں کہ اللہ اس سے ناراض ہے اور نتیجے میں اس کا حج مردود کر دیا گیا اور اس کی نیکیاں اس کے منہ پر مار دی گئیں۔

حضرت مالک کہتے ہیں (یہ سن کر میرا اضطراب اور فزوں ہو گیا، اور مجھے خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں وہ مرد و شخص میں ہی تو نہیں) چنانچہ اسی بیقراری کے عالم میں جب

(۱) فہنی التقدیر: ۲/۵۷۔

☆ انسان کیسا پاگل ہے کہ وہ ایک پتہ یا جیونی توہا نہیں سکتا مگر میسوں خدا بنا لیتا ہے!

دوسری رات سویا تو پھر کچھ ایسا ہی خواب دیکھا مگر اس میں اتنا اضافہ تھا کہ (اے مالک!) وہ مرد و شخص تو نہیں ہے بلکہ خراسان کے شہر لخ کا رہنے والا ایک شخص ہے، جسے محمد بن ہارون بُنیٰ کہا جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ صبح ہوئی تو میں خراسانی حاجج کے قافلے میں پہنچا، اور لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے بھائیوں میں کوئی محمد بن ہارون ہے؟۔ لوگوں نے کہا: اوه! حیرت کی بات ہے۔ آپ ایک ایسی عظیم و جلیل شخصیت کی بابت یوں بے تکلفی سے پوچھ رہے ہیں، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ خراسان کی سر زمین پران سے زیادہ صاحب زہد و درع اس وقت کوئی نہیں ہے!۔

کہتے ہیں کہ اب میں ایک بار اپنے خواب کو سوچتا ہوں اور پھر جب اس شخص کی بابت لوگوں کی تعریف و توصیف سنتا ہوں تو حیرت واستحقاب میں ڈوب ڈوب جاتا ہوں۔ میں نے کہا: اچھا مجھے ان کی بارگاہ تک پہنچاؤ۔ لوگوں نے کہا: وہ چالیس سال سے مسلسل دن میں روزے رکھتے اور رات کو عبادتیں کرتے ہیں، نیز وہ ویرانوں میں رہتے ہیں۔ اور شاید اس وقت وہ یہیں کہیں مکہ کے ہندرات میں ہوں گے۔

کہتے ہیں کہ اب میں نے ہندرات میں جا کر ان کی تلاش شروع کی تو جلد ہی انھیں ایک دیوار کے پیچھے کھڑا پالیا۔ ان کا دیاں ہاتھ ان کی گردن میں پڑا ہوا تھا جسے انھوں نے دو بڑی بیڑیوں سے مضبوطی کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور اسی حالت میں رکوع و تجوید کیے جا رہے تھے۔ میرے قدموں کی آہٹ محسوس کر کے انھوں نے پوچھا: کون؟، میں نے کہا: مالک بن دینار، اور بصرہ کا رہنے والا ہوں۔

یہ سن کر کہنے لگے: اچھا! تم ہی مالک بن دینار ہو جن کی علیمت اور زہد و تقویٰ کے ڈنکے پورے عراق میں نہ رہے ہیں۔ میں نے کہا: عالم تو اللہ رب العزت ہے۔ اور زہد و عابد حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں، وہ اگرچا ہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں؛

☆ ہوائیں کتنی ہی تیز ہوں جھکنے والی گھاس اپنی جگہ نہیں چھوڑتی!۔

لیکن باادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و روع اختیار فرمایا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بدرجہ آخر پائی جاتی ہے، ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔

پھر انہوں نے پوچھا: مالک! کس مقصد سے آئے ہو؟ اگر تم نے کوئی خواب دیکھا ہو تو مجھ سے بیان کرو۔ کہتے ہیں کہ مجھے حیاد میں گیر ہوئی کہ میں کیسے ان کے سامنے اسے بیان کروں؛ مگر انہوں نے اصرار کے ساتھ کہا: بلا تکلف بیان کرو۔ چنانچہ میں نے دبے لفظوں اسے بیان کر دیا۔

یہ سن کر وہ دیر تک روتے رہے۔ میں نے ان سے پوچھا: کیا آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی بڑا گناہ حائل ہے؟، کہنے لگے: ہاں! بہت بڑا، زمین و آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔ میں نے کہا: مجھے آپ اپنا وہ گناہ بتائیں تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انھیں اس گناہ سے ڈراوں جس کی سزا آپ بھگت رہے ہیں۔
پھر وہ یوں گویا ہوئے :

اے مالک! امر واقع یہ ہے کہ میں بہت ہی شرابی انسان تھا، اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدد ہوش رہتا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا۔ میں نے وہاں خوب شراب پی، پھر جب مجھ پر نش طاری ہونے لگا، اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا، اور دروازہ ٹکٹکھا تیا۔ میری زوجہ نے دروازہ ٹکھوا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو میری والدہ تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی، اور آگ خوب بہڑکی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے مجھے نشے کی حالت میں ٹکھراتے ہوئے دیکھا تو قریب آئیں، مجھے تھاما اور فرمائے لگیں :

آج شعبان کا آخری دن اور ماہِ رمضان کی پہلی شب ہے۔ لوگ تروزے کی حالت میں صبح کریں گے؛ مگر لگتا ہے تم نشے ہی کی حالت میں صبح کرو گے۔ کیا تمہیں کچھ بھی اللہ سے شرم نہیں آتی؟، کب تک اپنا یہ حال بنائے رہو گے؟۔

☆ ہم جتنا مطالعہ کرتے ہیں اپنی علمی کا ہمیں اتنا ہی پتا چلتا ہے۔

ان کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور نشے کی حالت میں میں نے انھیں ایک مکا رسید کر دیا، تو ان کے منہ سے لکلا: اللہ تیرا یہ را غرق کرے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے اور غصہ چڑھ گیا اور نشے کی حالت میں انھیں اٹھا کر دیکھتے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ جب میری بیوی نے میری اس حرکت کو دیکھا تو اس نے مجھے پکڑ کے ایک کوٹھری کے اندر بند کر کے باہر سے تالا چڑھا دیا؛ تا کہ پڑو سی میری آواز نہ سن سکیں اور انھیں معاملے کی خبر نہ ہو۔

میں اسی طرح دھت نشے میں پڑا رہا۔ جب رات کی آخری گھنٹیاں آئیں تو میرا نشہ دھیرے دھیرے ہرن ہونے لگا۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو اسے بند پایا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی کہ دروازہ کھلو۔ تو اس نے نہایت بے رخی سے جواب دیا کہ میں دروازہ نہیں کھلوں گی۔

میں نے کہا: تیرا خانہ خراب ہو۔ تم یہ غصہ کس بات کا دکھار ہی ہو؟، کہا: اسی گھر کی کوٹھری میں پڑے رہو، تم جیسے بے رحم شخص پر کون رحم کھائے گا؟۔

میں نے کہا: تم یہ کیا باتیں کر رہی ہو؟، بولی: بدجنت! تم اپنی ماں کے قاتل ہو۔ تم نے انھیں اٹھا کر تندور میں پھینک دیا اور وہ بے چاری جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔

کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے دروازہ اکھاڑ پھینکا، اور تندور کی طرف لپکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں جلی ہوئی روٹی کی مانند ہو چکی ہیں۔ اب میری ندامت و افسوس کی انہا ہو گئی، اور میں اسی عالم میں گھر سے نکل پڑا، سارا ماں صدقہ کر دیا، غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اور آج چالیس سال سے مسلسل دن میں روزے رکھ رہا ہوں اور رات میں عبادتیں کر رہا ہوں۔ نیز ہر سال حج بھی کرتا ہوں۔ اور ہر سال کوئی نہ کوئی (عارف باللہ) اس قسم کا خواب آ کر مجھے سناتا ہے۔

حضرت مالک فرماتے ہیں کہ اب میں نے عالم غضب میں اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر کر کہا: اے نامراد! قریب ہے کہ جو آگ تجوہ پر نازل ہونے والی ہے وہ ساری زمین کو جلاڈا لے۔ یہ سب کچھ کر کے اب آ کر یہاں پناہ گزیں ہو گئے ہو۔

☆ گالی کا جواب نہ دیں؛ کیوں کہ کوتربھی کوے کی بولی نہیں بول سکتا۔

پھر میں وہاں سے ایک طرف ہو گیا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ سکے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ میں جا چکا ہوں تو اس نے اپنے ساتھ آسان کی طرف اٹھا دیے اور مناجات کرنے لگا: اے مشکلیں آسان کرنے والے، غم کی بدیلوں کو چھانٹنے والے، اور بے قراروں کی دعائیں قبول کرنے والے! میں تیری رضا کا طالب، تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، جو کچھ ہوا اُسے معاف فرمادے۔ اب تک میری امیدیں تیری ذات سے وابستہ ہیں، اور تو دعاوں کو رسوانہ ہیں فرماتا۔

حضرت مالک کہتے ہیں کہ اس کی یہ رفت اگنیز مناجات سن کر میں اپنی رہائش کی طرف لوٹ آیا، پھر جب رات آئی تو دل کی آنکھیں کھل گئیں، مجھے خواب میں پیارے آقا رحمت سرا پاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا: اے مالک! تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتے پھرو۔

تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے آسان کی بلندیوں سے محمد بن ہارون پر نگاہِ رحمت ڈال دی ہے، اس کی دعائیں مقبول ہو گئی ہیں، اور اس کے کاندھے سے گناہوں کا بوجھ بھی اُتار دیا گیا ہے؛ لہذا اس کے پاس جا کر کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو روزِ قیامت جمع فرمائے گا، اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کو بدلہ دلوائے گا اور ذرے کا حساب لے گا۔ یوں ہی جب بدلہ لینے کی باری آئے گی، تو تجھے تیری والدہ کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کے نتیجے میں تجھے (ایک خاص وقت تک کے لیے) جہنم کا عذاب چکھایا جائے گا۔ پھر اخیر میں تجھے تیری ماں کے حوالے کر دیا جائے گا، (پھر تیری ماں کی مرضی)۔

حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: جب صبح ہوئی تو میں فوراً محمد بن ہارون کے پاس گیا اور انھیں بشارت دی کہ آج رات میں مجھے مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ اور پھر میں نے انھیں پورا واقعہ بیان کر دیا۔ خدا کی قسم! میرا

☆ جب آنکھ دل بن جائے تو دل آنکھ بن جاتا ہے۔

خواب سن کروہ جھوم اٹھے اور اسی لمحے ان کی روح اس آسمانی سے ان کے تن سے جدا ہو گئی کہ جس طرح پھر کوپانی میں ڈالا جائے تو وہ آسمانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر ان کی تجھیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔^(۱)

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں متواتر چودہ سال تک حج کی سعادت عظمی سے سرفراز ہوتا رہا، اور ہر سال خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ایک درویش کو کعبہ معلّمہ کا دروازہ پکڑے دیکھا، جب وہ بیک اللہم بیک کہتا تو غیب سے آواز سنائی دیتی: لا بیک۔

حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ مجھ سے رہانے گیا اور میں نے چودہ ہویں سال اس شخص سے پوچھا: اے درویش! تو بہرہ تو نہیں؟۔ اس نے کہا: میں سب کچھ سن رہا ہوں۔ میں نے کہا: پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟۔ اس نے کہا: اے شخ! میں حلوفیہ بیان کرتا ہوں کہ اگر بجائے چودہ سال کے چودہ ہزار سال میری عمر ہو جائے اور بجائے سال کے ہر روز ہزار بار یہ جواب لا بیک سنائی دے تب بھی اس دروازے سے نہ ہٹوں گا اور اس درسے اپناسرنہ اٹھاؤں گا۔

آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مصروف گفتگو ہی تھے کہ اچانک آسان سے ایک کاغذ اس کے سینہ پر گرا، اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا، جب میں نے اسے کھوں کر دیکھا تو اس میں درج تھا :

اے مالک! تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے چودہ سال کے حج قبول نہیں کیے! ایسا ہر گز نہیں بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اس کی پکار ہی کی برکت سے قبول کیے ہیں تاکہ میری بارگاہ سے کوئی واپس نہ جائے۔

شنیدم کہ در روزِ أمید و یم ☆ بدال رابہ نیکاں به بخند کریم

(۱) بر الولدین: ارے تا ۸۷۸.....عیون الحکایات ابن الجوزی: ار ۲۲۲۶

☆ انسان زندہ رہنے کے لیے مر تاجر ہے، سکتا جار ہے۔ ہر شے کو ذرا تے ذرا تے خود ہی سہم گیا ہے۔

سعدون مجنوں کی فرزائی

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شہر بصرہ کے مقام جبانہ میں جانے کا اتفاق ہوا، جہاں اچانک اس زمانے کے کامل ولی اللہ سعدون مجنوں سے میری ملاقات ہو گئی، لوگ انھیں پاگل کہا کرتے تھے۔ میں ان کے قریب گیا اور صوب بیٹھ گیا، پوچھا: حضرت سعدون کیا حال ہے؟۔

سعدون مجنوں تڑپ اٹھے اور کہنے لگے: اس شخص کا حال مالک بن دینار پوچھ کر کیا کرے گا جسی صبح و شام ایک دور دراز لمبے سفر کی فکر دامن کیر رہتی ہے، اس کے پاس نہ تو شہ ہے اور نہ تو شہزاداں۔ اسے منصف و عادل پروردگار کے رو برو پیش ہونا ہے، جو بندوں کے درمیان راست فیصلے فرمائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور زمین پر گر پڑے۔

میں نے پوچھا: یہ رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: قسم بخدا! مجھے زیادہ جینے کی خواہش، موت کے خوف، یا کثرت ابتلاء آزمائش نہیں رلا یا، بلکہ میرے رونے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میری زندگی کا ایک دن کوئی عمل خیر کیے بغیر گزر گیا۔ تو اسی بات یہ ہے کہ مجھے زاد سفر کی کمی، کامیابی کی فکر اور منزل مقصود کی تلاش نے گریہ و بکا کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اور پھر مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ پس مرگ جنت یا جہنم میں سے کون میراٹھکانا بنے گا!۔

ایسا کلام بلیغ سن کر میں نے ان سے پوچھا: لوگ آپ کو پاگل و مجنوں کیوں تصور کرتے ہیں؟، فرمایا: بنی اسرائیلیوں کی طرح تمہیں بھی دھوکا ہو گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پاگل ہوں حالاں کہ جنوں اور پاگل پن نے مجھے چھوٹکنک نہیں ہے؛ لیکن بس مولا کی محبت و چاہت میں میں ایساوارفتہ اور شور یدہ سر ہو کر گلی کو چوں میں دیوانہ وار پھر تارہتا ہوں۔

حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: آپ لوگوں سے راہ و رسم کیوں نہیں رکھتے، اور ان میں مل جل کر کیوں نہیں رہتے؟۔ تو انھوں نے جواب دیا: مالک!

☆ اگر آپ غلطیوں کو روکنے کے لیے دروازہ بند کر دیں گے توچ بھی باہر ہی رہ جائے گا!۔

لوگوں سے جتنا ہو سکے الگ رہا کرو اور لوگوں سے دوستی کی بجائے اللہ سے دوستی رکھا کرو صرف اسی کی دوستی سچی دوستی ہوتی ہے۔ لوگوں کو تم جتنا آزمالو ان کی دوستی کے پیچے کہیں کوئی غرض و مقصد ضرور پوشیدہ نظر آئے گا؛ مگر مولا کی دوستی کو تم جتنا چاہو پر کھلودہ بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے۔

حضرت سعدون مجذوب کا حال یہ تھا کہ وہ بصرہ کی گلی کو چوں میں گھومتے پھرتے تھے، ہر گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، چلتے چلتے گھر والوں کو آواز دے کر کہتے، موت قریب ہے اور گھر والوں موت تھا رے جسموں کو پرانا کر دے گی، تھہرا اگوشت پوسٹ قبر میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس نصیحت کو یاد کرو؛ تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کی کوئی شے اچھی نہ لگے، رونے کے سوا کچھ اچھانہ لگے، یہ کہہ کر روتے ہوئے بصرہ کی گلی کو چوں میں ہر گھر کے مکینوں کو رلاتے، بڑے لوگوں کو اس نصیحت کی راہ پر لگاتے اور اللہ کی محبت و معرفت کے جام پلاتے۔

اس واقعہ کو امام یافعی نے بھی ”روض الریاحین“ میں نقل فرمایا ہے۔^(۱)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ دورانِ حج ایک مرتبہ میری آنکھ لگنی اور خانہ کعبہ کے قریب ہی سو گیا۔ اتنے میں سعدون مجذوب میرے سرہانے آ کر یہ شعر پڑھنے لگا :

يا أيها الرائق كم ترقد	قُمْ يَا حَبِيبِيْ قَدْ دَنَا الْمُوْعَدْ
وَخَذْ منَ الْلَّيلِ وَسَاعَاتِهِ	فَازَدَدَ إِذَا مَا سَجَدَ السَّجَدَ ^(۲)
يعنی اے سونے والے! کب تک یوں ہی سوتار ہے گا۔ میرے دوست! اُٹھ دیکھ عرصہ قیامت کتنا قریب آ گیا ہے۔	

اگر سونا ہی ہے تو رات کی کچھ گھریوں میں سو رہا کر، لیکن اُس وقت اُٹھ کر اپنی پیشانی کو لذت بخود سے آباد کر دے جب کہ کوئی اور سجدہ کرنے والا نہیں ہوتا۔

(۱) تفسیر روح البیان: ۱۵/۲۳۲۔ (۲) عقلاء الجانین: ۱/۲۲۱۔

☆ ترقی یا ارتقا ضروری ہے لیکن..... گھوارے سے نکل کر اپنی قبر بک کتنی ترقی چاہیے!

بے فیضِ دوستی سے بچو!

حضرت مالک بن دینار نے اپنے داماد حضرت مغیرہ بن حبیب سے فرمایا: اپنے دوستوں اور بھائیوں کا خوب اچھی طرح جائزہ لے لو، اگر وہ دین میں تمہارے لیے بے فیض ثابت ہوں اور تمہیں ان سے کسی اکتساب خیر کی توقع نہیں تو ان کی صحبوتوں سے یک لخت الگ ہو جاؤ؛ کیوں کہ وہ بظاہر تو تمہارے دوست مگر درحقیقت تمہارے دشمن ہیں۔

اے مغیرہ! پرندوں کی طرح انسان کی بھی قسمیں اور شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ جس طرح کبوتر کبوتر کے ساتھ، کو اکوئے کے ساتھ، اور مولا ممولے کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح انسان کو بھی اپنے مزاج و طبع کے مطابق رفیق منزل تلاش کرنا چاہیے۔^(۱)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے دوستوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے بازار کے باورچیوں کا شوربہ، کہ جس کی خوشبو اور رنگ و روغن تو بڑا عمدہ ہوتا ہے مگر اس سے پیٹ کچھ بھی نہیں بھرتا۔^(۲)

حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ فرمایا: جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کی صحبت سے کیا فائدہ!۔

آپ نے مزید فرمایا:

کل جلیس لا تستفید منه خیرا فاجتنبه .^(۳)

یعنی بے فیضِ دوستوں سے بچ کر رہو۔

(۱) مکارم الاخلاق خراطی: ۲۲۵/۲ حدیث: ۶۹۹..... حیاة الحجوان الکبری: ۱/۲۲۲..... لمتشی من کتاب مکارم الاخلاق و معالیہ۔

(۲) الصداقت والصدقات: ۱/۱۹۔

(۳) الزہد لابن ابی عاصم: ۱/۲۸ حدیث: ۸۲..... الجالس و جواہر العلم: ۱/۳۳۸۔

☆ انسان کو دیریا کی طرح تنگی، سورج کی طرح شفیق، اور زمین کی طرح نرم ہونا چاہیے۔

بے زبانوں کی عبرت آگئیں باتیں

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ہوئی ہے کہ ایک نوجوان نے کبھی کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کیا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب وہ نہر کے پاس غسل کرنے کے لیے پہنچا تو اُسے وہ سابقہ گناہ یاد آگیا۔ تھوڑی دیر وہ وہیں مارے شرم کے ٹھہر ارہا، اور نہانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر جب وہ وہاں سے لوٹنے لگا تو نہر نے بزبان انسان اس سے کہا :

یا عاصی لو دنوت منی لغرفتک . (۱)

یعنی اے خاطلی و بدکار! (اچھا ہوا کہ) تو میرے قریب نہیں آیا؛ ورنہ میں تجھے غرق ہی کر دیتی۔

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام نے چالیس گز لمبا چوڑا سونے کا ایک خوبصورت قبہ تعمیر کروایا، جس میں انگنت قسم کے گوناگوں ہیرے جواہرات جڑوائے۔ ایک دن حضرت سلیمان اس کے اندر تشریف فرماتھے کہ اچانک دو گوریے اس پر اترے۔ نرنے مادے کو رغلانا چاہا مگر مادہ کسی طور تیار نہ ہوئی۔ تو زنے مادہ سے کہا: قم خود کو اس سے کیوں منع کر رہی ہو؟ قسم بخدا! اگر تم اس قبہ کو یہاں سے کھین اور منتقل کرنے کے لیے کہو تو میں تمہاری خاطر یہ کام بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔

ان کی یہ رازدارانہ باتیں حضرت سلیمان نے سن لیں اور ان دونوں کو اپنے سامنے حاضر ہونے کے لیے کہا۔ اب آپ نے اُن سے پوچھا: ایسا ایسا کس نے کہا ہے؟ زنے جواب دیا: اے اللہ کے نبی! یہ بات میں نے کہی ہے۔ فرمایا: تمہیں ایسی بات کہنے کی جرأت کیسے ہوئی؟، کہا: اے اللہ کے نبی! آپ کو معلوم ہے کہ میں عاشق ہوں اور اہل عشق کی محبت کے معاملے میں کوئی ملامت و سرزنش نہیں کی جاتی۔ (۲)

(۱) التوبہ ابن ابی الدین: ۱/۲۹۲ حدیث: ۱۶۳۔

(۲) اعتلال القلوب خاطلی: ۲/۸۸ حدیث: ۳۷۳.....تاریخ دمشق: ۲۲۳/۲۲۔

☆ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ قطرے اپنے استقلال سے چنان میں سوراخ کر دیتے ہیں!

شیخ دینوری نے 'مجالۃ' میں حضرت مالک بن دینار کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ کسی آسمان میں ایسے فرشتے بھی ہیں جن کی آنکھیں دنیا جہان کے ذرات کے برابر ہیں، اور ان میں سے ہر آنکھ کے نیچے ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں جن کی وساطت سے وہ ایک جدا گانہ زبان میں حمد الہی بجا لاتے ہیں کہ جس کو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں سمجھ پاتا۔ اور پھر حاملین عرش فرشتوں کے پاس ایسی سینگیں ہیں کہ ان سینگوں اور ان کے سروں کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے، اور عرش اس کے بھی اوپر ہے۔^(۱)

دنیادھو کے کی طڑی

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کو عارضی قیام گاہ اور آخرت کو دائی ٹھکانا بنایا ہے؛ الہذا عارضی کے پیچے نہ بھاگو بلکہ دائی کی فکر کرو۔ دنیا کی محبت کو اپنے دولی سے کھرچ کر پھینک دو۔ اس کے کہ دنیا تمہارے جسموں کو یہاں سے نکال کر تیر گور رکھ چھوڑے؛ الہذا تم یہ سمجھو کہ تم دنیا کے لیے نہیں بلکہ یہاں ایک خاص وقت تک رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔

دنیا زہر کی مانند ہے، جو نہیں جانتا کھا لیتا ہے اور جو جانتا ہے اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ بلکہ یہ سمجھو کہ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے کہ جس کی جلدیں بڑی نرم و ملائم ہوتی ہیں مگر زہر اس کے اندر ہوتا ہے؛ الہذا عقل مندو اس سے دور دور رہتے ہیں مگر بچ نہ نادانی میں اسے اپنے ہاتھوں سے کپڑ لیتے ہیں۔^(۲)

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک شخص کے سامنے سے گزرے جو کھجور کے پودے لگا رہا تھا، آپ وہاں سے جلد گزر گئے، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ پودے پھل دار ہو چکے ہیں۔

(۱) الجباہک فی اخبار الملائک: ۱/۱۷.....المجالۃ وجواہ الرعلم: ۱۳/۱۔

(۲) صفت الصفوۃ، ابن حوزی: ۲۷۲/۱۔

☆ جو واقعی بڑے ہیں وہ بڑا بول نہیں بولتے۔ ہیرا کب منہ سے کہتا ہے کہ میں ہیرا ہوں۔

آپ نے اُس کھجور لگانے والے کے بارے میں دریافت فرمایا۔ کسی نے بتایا کہ وہ تو انقلال کر چکا ہے۔ اس وقت بر جستہ آپ کی زبان پر یہ اشعار آگئے۔

مؤمل دنیا التبّقی لَهُ ☆ فمات المؤمل قبل الأمل
يَرْبِّي فسيلاً ويعنى به ☆ فعاش الفسيل ومات الرجل
لیعنی آدمی نے دنیا سے امید لگائی کہ وہ اس کے پاس رہے گی؛ لیکن امیدوار امید پوری ہونے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو گیا۔
اُس نے کھجور کی پرورش و گہد اشت کی، پھر کھجور کا درخت تو باقی رہا؛ لیکن وہ شخص دنیا سے چلا گیا۔ (۱)
حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

من تباعد من زهرة الدنيا، فذاك الغالب هو اه . (۲)
لیعنی جو دنیا کی رنگینیوں سے دور ہو گیا تو سمجھو کہ وہ اپنی خواہشوں پر اپنا قبضہ جانے میں کامیاب ہو گیا۔

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :
ان من عرف اللہ لقيه سالماء، والويل كل الويل لمن ذهب
عمره في الدنيا باطلأً . (۳)

لیعنی جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ اس سے سلامتی کے ساتھ ملتا ہے اور جو اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس نے اپنی عمر دنیا میں بے کار گزاری ہو تو ایسا شخص صحیح معنوں میں ہلاک کر دیے جانے ہی کے قابل ہے۔

(۱) طبلۃ الاولیاء، ابویم اصفہانی: ۲/۲۳۷، رقم: ۷۸۷۔

(۲) سیر اعلام البلاء: ۵/۲۳۶۔

(۳) الزہر الفاغنی ذکر من تزہ عن الذنوب والقبائح: ۱/۲۲۱۔

☆ دلائل جتنے کم ہوں گے الفاظ اتنے سخت ہوں گے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

خرج الناس من الدنيا و لم يذوقوا أطيب الأشياء، قبل وما هو،
قال معرفة الله تعالى . (۱)

یعنی لوگ دنیا سے (نامرادی کے عالم میں یوں ہی) چلے گئے مگر انھیں پا کیزہ
و نفس ترین چیز کا ذائقہ نصیب نہ ہوا۔ پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا: معرفتِ الہی۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

اتقوا السحارة ، اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء
یعنی الدنیا . (۲)

یعنی جادوگر (دنیا) سے بچ کر رہو۔ فسون گر (دنیا) سے خود کو دور رکھو؛ کیوں کہ
اس کا جادو اہل علم کے دلوں پر بھی چل جاتا ہے، اور وہ انھیں بھی مسحور کر لیتی ہے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

حب الدنيا رأس كل خطية، والنساء حالة الشيطان، و
الخمر داعية كل شر . (۳)

یعنی دنیا کی محبت ہر جرم و خطا کی جڑ ہے۔ عورتیں شیطانوں کا (کامیاب) جال
ہیں۔ اور شراب ہر برائی کا ذریعہ ہے۔

حضرت مالک بن دینار کو کہتے سن گیا کہ اس شخص پر سخت تجرب ہے جسے اس بات کا حق
الیقین ہو کہ موت ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی اور قبر کسی نہ کسی دن اس کا ضرور ٹھکانا بنے
گی؛ پھر دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کو کیسے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور اس دنیا

(۱) تفسیر روح المیان: ۲۷۱/۲۔ تاریخ الاسلام ذہبی: ۲۲۳/۲.....الجالس وجاهرا علم: ۱/۵۵۔

(۲) الرہدان ابن ابی الدنيا: ۱/۳۰۰/۲ حدیث: ۳۹.....احیاء علوم الدین: ۲/۳۹۷.....ریاض البار: ۱/۶۔

(۳) الرہدان ابن ابی الدنيا: ۱/۳۹۹/۲ حدیث: ۷/۳۹۔

☆ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اسے اُن کی خدمت میں صرف کیا جائے جن کے پاس وہ نعمت نہیں۔

میں زندگی بسر کرنے کو اس کا کیسے جی چاہتا ہے۔ اتنا کہہ کر آپ رونے لگے اور اتناروئے کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ (۱)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

من غالب شهوة الحياة الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من
ظله . (۲)

یعنی جس نے دنیوی زندگی کی شہوتوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی، تو پھر شیطان اس کے سامنے سے بھی دور بھاگے گا۔

مسلم بن دیلیمی کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا :

منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحتهم ولم أكره مذمتهם، قيل، و
لم ذاك؟ قال: لأن حامدهم مفروط و ذامهم مفترط. (۳)

یعنی جب سے مجھے لوگوں کی نظرت پر آگاہی نصیب ہوئی ہے، اس کے بعد سے ان کی تعریف و توصیف سے نہ مجھے کوئی خوش محسوس ہوتی ہے اور نہ ان کی ندمت و سرزنش سے کوئی قلق و غم۔ پوچھا گیا: ایسا کیوں؟ فرمایا: اس لیے کہ وہ مدح و ذمہ دونوں میں افراط و غلو سے کام لیتے ہیں۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك،
فبقدر ما تحزن للأخرة كذلك يخرج هم الدنيا من قلبك. (۴)

(۱) تاریخ دمشق: ۳۶۰/۵۲۔

(۲) حلیۃ الاولیاء: ۱۷۷۔

(۳) الزہد الکبیر تہجیق: ۱۲۸/۱.....العزلة خطابی: ۱۵۸/۱.....الاداب الشرعیہ: ۱۷۶/۱.....تاریخ دمشق: ۳۶۹/۵۲۔

(۴) الزہد الکبیر تہجیق: ۱/۲۲۶ حدیث: ۲۵۹.....موسوعۃ اطراف المحدث: ۱۱۱۲۳۲/۱.....حدیث: ۵۲/۷۰۔

☆ اک ذرا ذائقے میں کڑوا ہے۔۔۔ ورنہ سچ کا کوئی جواب نہیں۔

یعنی تم جس قدر دنیا کے لیے حیران و پریشان ہوتے ہو۔ اسی کے مطابق آخترت کی فکر لوگن تھارے دل سے رخصت ہو جاتی ہے۔ اور تم جس قدر آخترت کے لیے فکر مند ہوتے ہو اسی کے مطابق دنیا کی چاہت و محبت تھارے دل سے نکل جاتی ہے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

إِنَّ الْبَدْنَ إِذَا سَقَمَ، لَمْ يَنْجُحْ فِيهِ طَعَامٌ، وَ لَا شَرَابٌ، وَ لَا نُومٌ، وَ لَا رَاحَةٌ، كَذَلِكَ الْقَلْبُ إِذَا عَلِقَ حُبُّ الدُّنْيَا لَمْ تَنْجُحْ فِيهِ
الْمَوَاعِظُ . (۱)

یعنی جب بدن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو اسے کھانا پینا، اور راحت و آرام کچھ نہیں اچھا لگتا۔ یوں ہی جب دل اپنا تعلق دنیا کے ساتھ استوار کر لیتا ہے تو اسے پند و نصائح کچھ کام نہیں دیتیں۔

حضرت پیر بن حارث کو کہتے سناؤ گیا کہ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ اے لوگو! میرے لیے دعا کرو نیز جب میں دعا کروں تو میری دعا پر آمین بھی کہو؛ چنانچہ آپ نے اس طرح دعا فرمائی :

اللَّهُمَّ لَا تَدْخُلْ بَيْتَ مَالِكٍ مِّنَ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَ لَا كَثِيرًا قَالَوا
آمِينَ .

اے پروردگار! مالک کے گھر میں دنیا کو گھسنے کی بالکل اجازت نہ دینا۔ چنانچہ لوگوں نے اس پر آمین کہا۔ (۲)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

(۱) الزہد الکبیر تہجی: ۱/۲۶۵ حدیث: ۲۶۱..... الزہد ابن ابی الدنیا: ۱/۱۳۳ حدیث: ۱۳۲۔

(۲) الزہد الکبیر تہجی: ۱/۳۰۲ حدیث: ۲۹۸۔

☆ اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں!

يَا هُؤلَاءِ إِنَّ الْكَلْبَ إِذَا طَرَحَ إِلَيْهِ الْذَّهَبَ وَالْفَضَّةَ لَمْ يَعْرِفْهَا،
وَإِذَا طَرَحَ إِلَيْهِ الْعَظَمَ أَكَبَ عَلَيْهِ، كَذَلِكَ سَفَهَاؤُكُمْ لَا يَعْرِفُونَ
الحق . (۱)

یعنی اے لوگو! ذرا کتے کو دیکھو کہ جب اس کی طرف سونا چاندی پھینکا جائے تو انھیں گھانس بھی نہیں ڈالتا؛ کیوں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے پاس ہڈی پھینکی جائے تو اس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اسی طرح تم میں جو بے وقوف ہیں وہ بھی نورِ حق و صداقت کی اہمیت سے یوں ہی بے بہرہ ہیں۔

حضرت جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار کو فرماتے سنا :

أَرْبَعُ مِنْ عِلْمِ الشَّقاوةِ: قَسْوَةُ الْقَلْبِ، وَجَمْدُ الْعَيْنِ، وَطُولُ
الْأَمْلِ، وَالْحَرْصُ عَلَى الدُّنْيَا . (۲)

یعنی چار چیزیں شقاوت و بدیختی کی علامت ہیں۔ دل کی بختی، آنکھوں کی خفگی، لمبی لمبی امیدیں، اور دنیا کی حرث و طمع۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملکوتی نمائندوں کو کسی بستی کے تھس نہیں کرنے کا حکم فرمایا تو وہ عرض کرنے لگے: مولا! اس میں تیرا ایک عابد بندہ بھی سکونت پذیر ہے؟ فرمایا: مجھے ذرا اس کے (ذکر و تسبیح) کا نغمہ سناؤ؛ کیوں کہ اس کا چہرہ غصب الہی کا سوچ کر (یا اللہ کے لیے) کبھی بھی سرخ نہ ہوا۔ (۳)

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک قیدی کے پاس سے گزرے، جس کا مال چھین کر اسے رسیوں میں باندھ دیا گیا تھا۔ اس نے فریاد کی: اے

(۱) طبلۃ الاولیاء: ۱/۳۷۴۔

(۲) الزہد و صفة الراہدین لاحمد بن شریعت: ۱/۱۶۰..... الزہد ابن ابی الدنیا: ۱/۳۷۳ حدیث: ۳۶۔

(۳) تفسیر بحر محيط: ۲/۲۷۳۔

☆ زندگی کا ہر دن تاریخ کا ایک ورق ہے۔

ابویحی! براے کرم مد فرمائیئے، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ جب حضرت مالک نے اس کا سر اٹھایا تو ایک ٹوکری نظر آئی۔

پوچھا: یہ ٹوکری کس کی ہے؟ کہا: میری۔ آپ نے اسے اتارنے کا حکم دیا، دیکھا تو اس کے اندر ایک مرغی اور کھجور و گھنی کے بننے کچھ طوبے پڑے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت مالک نے فرمایا: بس اسی نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈالوائی ہیں۔^(۱)

ابن ابی الدین احادیث مالک بن دینار کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آخری زمانے میں ایک تیز قسم کی ہوا چلے گی، اور ظلمتوں کا دور ہو گا۔ لوگ دہشت کے مارے دوڑ کر دینی پیشواؤں کے پاس آئیں گے؛ لیکن یہاں منظر کچھ اور ہو گا، یہ لوگ پہلے ہی سے مسخ ہو چکے ہوں گے، اور ان کی صورتیں بدل چکی ہوں گی۔^(۲)

اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام حکیم ترمذی نے نوادرالاصول میں حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

یکون فی امتی فزعۃ فیصیر الناس الی علمائهم فإذا هم فردة و
خنازير .^(۳)

یعنی میری امت میں ایک ایسی چلکھاڑ ہو گی کہ لوگ (جسے سن کر بے تحاشا) اپنے دینی پیشواؤں کے پاس بھاگیں گے؛ مگر ان کے علا پہلے ہی بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے ہوں گے۔

حضرت مالک بن دینار - رحمہ اللہ - فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اگر وہ اوصراہی کی ادائیگی میں کوتا ہی کے مرتب ہوں گے تو کہیں گے: (کوئی بات نہیں)

(۱) تفسیر کشاف: ۱/۲۷..... فیض القدیر: ۷/۲۳۔

(۲) تفسیر درمنثور: ۱۹۲/۹۔

(۳) تفسیر درمنثور: ۱۹۲/۹۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشن دے گا؛ کیوں کہ ہم اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک تو نہیں کرتے؟۔ ان کا سب کچھ حرص و آزر پر منی ہوگا۔ ان کا چاپلوں سب سے معزز و محترم سمجھا جائے گا۔ تو اس قسم کے لوگ بھی اس امت میں ہوں گے۔^(۱)

حضرت مالک بن دینار کو کسی نے ”ریا کار“ کہہ کر آواز دی۔ آپ نے نہ صرف اس کا شکر یہ آدا کیا بلکہ اس سے فرمایا: اے شخص! تو نے یہ کیا خوب نام ایجاد کیا ہے۔ اہل بصرہ اسے بھول گئے تھے۔^(۲)

دنیا، تختھے تین طلاق

حضرت خشم بن معاویہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شیخ نے بیان کیا کہ بصرہ کے ایک ذی ثروت شخص کے پاس بلا کی حسین و جمیل اور پاکیزہ نفس لڑکی تھی۔ ایک دن اس کے باپ نے کہا: بیٹی! بوناہشم کے شہزادوں، عرب کے سرداروں اور بڑے بڑے جا گیر داروں کے پیغامات تو تم نے ٹھکرایا، اب یہ بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو، کہیں مالک بن دینار جیسے زادہوں کی تو تمہیں ملاش نہیں ہے؟ کہا: قسم بخدا! میری دلی خواہش یہی ہے کہ میں مالک بن دینار کی شریک حیات بننے کا شرف پاؤ۔

باپ نے اپنے ایک بھائی سے کہا: مالک بن دینار کے پاس جاؤ اور اسے میری بیٹی کا پیغام پہنچا دو نیز یہ بھی کہہ دینا کہ میری بیٹی کے دل میں اس کی محبت کے سینکڑوں چراغ بیک وقت جل رہے ہیں۔

وہ آیا اور مالک بن دینار سے کہا کہ فلاں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور کہہ بھیجا ہے کہ مالک کو تو پتا ہی ہے کہ میں اس شہر کا کتنا میر کبیر اور نامور آدمی ہوں، میری ایک نیک

(۱) تفسیر بحر حمیط: ۵/۲۸۷..... تفسیر کشاف: ۲/۲۰۷۔

(۲) احیاء علوم الدین مترجم: ۳/۱۲۱۔

☆ اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے اُس کی توقع رکھنا ایک خطرناک غلطی ہے۔

فطرت حور صفت بیٹی ہے جس کا دل تم پر آگیا ہے، تو میں اس سلسلے میں کچھ بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔

یہ کہ حضرت مالک نے اس آدمی سے فرمایا: اے فلاں! تیری باتوں نے مجھے محیثت کر کے رکھ دیا ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے دنیا کو تین طلاق دے دیا ہے!۔^(۱)

حضرت مالک بن دینار سے پوچھا گیا:

ألا تتزوج؟ فقال: لو استطعت لطلقت نفسي .^(۲)

یعنی (أم میمی) کے انقال کے بعد) آپ دوسرا شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو

آپ نے فرمایا: اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں اپنے نفس کو بھی طلاق دے دیتا۔

ایک موقع پر ارشاد فرمایا: من خطبت الدنیا طلبت منه دینہ کله فی صداقها لا يرضيها منه إلا ذلك .

یعنی جو دنیا سے نکاح کرتا ہے، تو یہ حق مہر کے اندر اس سے اس کا پورا دین

ماگتی ہے، اس سے کم کے اوپر یہ راضی نہیں ہوتی۔

سچا و اعظّ کون؟

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

الواعظ الذي إذا دخلت بيته تعظم آلة بيته فترى إنااء

الوضوء و سجادة .^(۳)

یعنی صحیح معنوں میں واعظ وہ ہوتا ہے کہ (اس کی باتیں تو اپنی جگہ) حتیٰ کہ اگر تمہیں کبھی اس کے گھر جانے کا اتفاق ہو تو اس کے وضو کے برتن اور جانے نماز سے بھی تمہیں پند و نصیحت حاصل ہو۔

(۱) حلیۃ الاولیاء: ۱۹۱۔ ۳۷۸۔ (۲) حلیۃ الاولیاء: ۱۹۱۔ ۳۷۸..... الزہد الکبیر: ۱۹۱۔ ۳۷۸۔

(۳) معالم القریۃ فی طالب الحجۃ: ۱۹۱۔ ۲۳۶۔

☆ اگر دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو جس حال میں آپ کی ماں راضی ہو اسی حال میں زندگی گزار لیں۔

ٹوٹے دلوں کی آہیں

حضرت مالک بن دینار نے دیکھا کہ ایک شخص نے چھ درہم کی مچھلی خریدی، اور خود اس کے بدن پر پڑے لباس کی قیمت کوئی تین درہم سے کم رہی ہوگی۔ میں نے پوچھا: اے شخص! تو نے چھ درہم کی مچھلی خریدی؟ مگر تمہارا کپڑا شاید ہی تین درہم سے زیادہ کا ہو۔

کہنے لگا: اے ابو یحیی! یہ مچھلی میں نے اپنے لیے نہیں خریدی بلکہ یہ تو میں نے اپنے ظالم امیر کا مطالبہ پورا کیا ہے، (اور وہ ہمیشہ ہم سے کچھ ایسے ناقابل برداشت مطالبات کرتا رہتا ہے)۔ میں نے کہا: مجھے کسی دن اس کے پاس لے کر چلو۔

چنانچہ ایک دن اُس کے پاس جانے کا اتفاق ہوا۔ اس سے اذن کلام لینے کے بعد میں نے کہا: اے شخص! تو لوگوں پر ظلم و زیادتی کا بازار کب تک گرم کرتا رہے گا، اب تو اپنی اس حرکت سے بازاً، اور ان مسکینیں بے چاروں پر ترس کھا۔

کہنے لگا: اچھا ٹھیک ہے ابو یحیی آپ کی سفارش کی وجہ سے اب میں اس پر زیادتی نہیں کروں گا؛ مگر ایک درخواست ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے بطورِ خاص دعا فرمادیں۔ فرمایا: میری ایک دعا سے تمہیں کیا ملے گا جب کہ تمہارے دروازے پر کھڑے سینکڑوں لوگ تمہارے لیے بد دعا میں کر رہے ہیں!۔^(۱)

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص امن و سلامتی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہے اسے چاہیے کہ کسی پر ناحق ظلم نہ کرے۔ آپ سے جب اس کی وجہ پر چھی گئی تو آپ نے فرمایا: ایک بار میں کسی سمندر کے ساحل پر چلا جا رہا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک شکاری پر پڑی جس کے پاس سات مچھلیاں تھیں۔ میں نے اس کے سر پر مار کر ایک مچھلی اس سے زبردستی پھین لی، پھر کیا ہوا کہ اس مچھلی نے میرے انگوٹھے میں ڈنک مار دیا۔

(۱) ابن حضرم ۳۹۲/۲:الجالس و جواہر العلم: ۱۰۷

☆ کاذب ماحول میں صادق کی زندگی ایک کربلا سے کہ نہیں!۔

آطبابا، ہم مشورے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ کے انگوٹھا کا ٹٹے بغیر کوئی چارہ نہیں، پھر وہ زہر رستا ہوا میری ہتھیلی بلکہ بازو تک چڑھ آیا، اب میں نے زمین سے ایک اتھ نکالا اور اپنا ہاتھ کاٹنے کی نیت سے میں نے ایک درخت کی آڑ لی ہی تھی کہ مجھ پر نیند طاری ہو گئی، اور سایہ شجر تلے میں سو گیا۔ پھر مجھے خواب میں بتلایا گیا: کیوں تم اپنا ہاتھ کاٹنے پر تلتے ہو، حق کو صاحب حق کے پاس کیوں نہیں پہنچا دیتے؟۔

جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دوڑتا ہوا اُس شکاری کے پاس آیا اور عرض کی: مجھ سے غلطی ہوئی معاف کیجیے آئندہ پھر کبھی ایسا نہ ہو گا۔ اس نے کہا: تم ہو کون میں تو تمہیں پہچانتا بھی نہیں۔ پھر میں نے وہ سارا قصہ ماضی اُسے کہہ سنایا اور اس سے خوب الخاج وزاری کی چنانچہ اس نے میرے حال پر حرم کر دیا۔

پھر میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا تاہم بازو میں ہنوز حرارت موجود تھی لیکن اللہ کے فضل سے درد کا فور ہو گیا تھا۔ میں نے کہا: میرے بھائی! تو نے مجھے کیسی بد عادے دی تھی؟ کہا: جب آپ نے مجھے مارا اور مجھلی لے کر چلے تو میں آسان کی طرف منہ کر کے بہت رویا اور اس طرح فریاد کی:

یا رب أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَهُ عِبْرَةً لِخَلْقِكَ . (۱)

یعنی اے پروردگار! اے تو اپنی مخلوق کے لیے عبرت کا سامان بنادے۔

حضرت مالک بن دینار سے درخواست کی گئی کہ فلاں کے لیے دعا فرمادیں کہ اسے قید سے رہائی مل جائے۔ آپ نے فرمایا: تمہارے قیدی کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کسی بکری نے کسی فقیر کا آٹا کھالیا، اور بتلاے بدھنسی ہو گئی۔ اب بکری کا مالک دعا کر رہا ہے کہ مولا! اسے اس بیماری سے نجات عطا فرم۔ اور آٹے والا فقیر کہہ رہا ہے کہ پروردگار! اس بکری کو ہلاک فرمادے۔ اور یہ ایک بدیہی بات ہے کہ مظلوم کی دعا کے بال مقابل ظالم کی

(۱) الزہر الفائج فی ذکر من ترقہ عن الذنوب والثبات: ۲۲۱: ۱۔

☆ جب تک انسان اپنے بد خواہوں کا خیر خواہ نہ ہو اس وقت تک اس کی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔

دعا بے اثر ہوتی ہے؛ لہذا میری درخواست ہے کہ تم اپنے قیدی دوست سے کہو کہ وہ حق کو صاحب حق تک پہنچا دے، اگر اس نے ایسا کیا تو پھر اسے میری دعا کی کوئی احتیاج نہیں رہ جائے گی۔^(۱)

گناہ بے گناہی

حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد وزاہد تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کسی عورت نے پچ جنا اور اسے اس عابد کی طرف منسوب کر دیا۔ جب عابد نے پوچھا: یہ کہاں سے آیا؟ بولی: آپ سے۔ چنانچہ عابد نے پچ کو لیا اور سارے عبادت گزارانِ بنی اسرائیل کے پاس چکر لگا کر کہا: اے میرے دوستو! جو کچھ آج میرے ساتھ ہوا میں تمہیں اس سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں۔ یہ میری اپنی ہی خطاب ہے جسے اپنے کندھے پر لے کر میں مارا مارا پھر رہا ہوں؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی محض اس حرکت کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔^(۲)

ز میں کھائی پہلوال کیسے کیسے!

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا کسی محل سے گزر ہوا، دیکھا کہ رقصائیں ڈف بجا بجا کر رہے شعر پڑھ رہی ہیں:

ألا يا دار لا يدخلك حزن	و لا يغدر بصاحبك الزمان
إذا ما ضاق بالضيف المكان	فنعم الدار تأوي كل ضيف

(۱) محاضرات الادباء: ۳۰/۲۔

(۲) الراہ رالقائی فی ذکر من تنزہ عن الذنب والقبائل: ۱/۳۶۔

☆ جب ہماری تھنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملت۔

یعنی وہ گھر کتنا بہترین گھر ہے جس میں حزن والم کا داخلہ منوع ہے۔ اور جس کے رہائشی زمانے کے دست بردارے محفوظ ہیں۔

یہ گھر کتنا عمدہ ہے کہ جس میں ہر قسم کے مہمان پناہ گزیں ہو سکتے ہیں، جس وقت کہ ان مہماںوں پر زمان و مکان کی وسعتیں تنگ پڑ جائیں۔

فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد پھر اسی محل سے مجھے گزرنے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ محل ہنذر رات میں تبدیل ہو چکا ہے، اور ایک بوڑھی وہاں پیٹھی ہوتی ہے۔ میں نے ماضی کی یادوں کے حوالے سے اس بڑھیا سے سوالات کیے، تو وہ کہنے لگی: اے اللہ کے بندے! اللہ ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہے اور جب چاہے اور جس چیز میں چاہے تبدیل فرمادے، اور موت تو ہر کسی کی تاک میں ہے۔ قسم بخدا! آج دیکھیے کہ اس گھر میں ایک طرف تو حزن و غم نے بسیرا جمالیا ہے اور دوسری طرف اس کے باشندے بھی راہی ملک بقا ہو چکے ہیں۔ (۱)

قبر سے ایک مکالمہ

حضرت مالک بن دینار ایک مرتبہ جب قبرستان پہنچے تو آپ نے فرمایا :

أَتَيْتُ الْقُبُورَ فَنَادَيْتُهُ	أَيْنِ الْمُعَظَّمُ وَالْمُحْتَقَرُ
وَأَيْنِ الْمَدْلُ بِسَلَطَانِهِ	وَأَيْنِ الْمَزْكُورِ إِذَا مَا فَتَحَرَّ

یعنی میں نے قبروں کے پاس آ کر آواز لگائی کہ اشرف و انساب اور احقر و ادنیٰ لوگ کہاں چلے گئے (اور وہ کس حال میں ہیں؟)۔

اپنی سلطنت و سلطوت پر اترانے والے کہاں ہیں؟ اور فخر و غرور کی دہائی دینے والوں پر کیا گزری۔

(۱) لمestrف فی كل فن مستغرف: ۲۹۲۱ء ریج الابرار: ۸۸۱۱ء۔

☆ جب تک انسان اپنی روح کو بیدار نہیں کرتا وہ کوئی فلاحی کام نہیں کر سکتا۔

فرماتے ہیں کہ پھر پردہ غیب سے کسی کہنے والے نے مجھ سے مطاب ہو کر کہا :

تفانوا جمیعا فما مخبر
وماتوا جمیعا و مات الخبر
تروح و تغدو بنات الشری
و تمھی محسانن تلک الصور
فیا سائلی عن آناس مضوا
امالک فیما تری معتبر
یعنی جن کی بابت تم پوچھ رہے ہو وہ سب کے سب وادی فنا میں اُتر گئے، ان کی خبر دینے والا کوئی نہیں بلکہ ان کی خبریں بھی نابود ہو گئیں۔
صح و شام حشرات الارض ان کے خوبصورت چہروں کے رنگ روپ کو مٹانے میں ہمہ وقت مصروف ہیں۔

لہذا اے دنیا چھوڑ جانے والے لوگوں کی بابت پوچھنے والے شخص! کیا عبرت پکڑنے کے لیے اتنی باتیں تمہیں کافی نہیں ہیں!۔

پھر جب حضرت مالک وہاں سے لوٹے تو آپ کی پلکیں آنسوؤں کے بوجھ سے لدی ہوئی تھیں۔ (۱)

حضرت مالک بن دینار ہر جمعرات کو قوطرانی گدھے پر بیٹھ کر قبرستان پہنچتے اور فرماتے :

ألا حي القبور و من بهنه
وجوه في القبور و من بهنه
فلوأن القبور سمعن صوتی
إذا لأجبنني من وجدھنه
ولكن القبور صمتن عنی
ابث بحسرة من عندھنه
یعنی اے جہاں قبر اور اس کے اندر کے رہنے والو!۔ قبر کی خاک نے بہت سے ایسے چھرے بھی اپنے اندر چھپا لیے جھیں ہم بدل وجہاں چاہتے تھے۔

(۱) عيون الاخبار: ۲۲۹/۱۱..... مختصر تاريخ دمشق: ۱۹۸/۱۶

☆ پچھلی میں ہوتا ہے۔ ہم اس سے جیسا سلوک کریں گے وہ دیساہی کردار اپنائے گا۔

اگر قبریں میری یہ باتیں سن پاتیں، تو وہ پورے وجود و شوق کے ساتھ میری ان معروضات کا جواب دیتیں۔

لیکن اب قبروں نے ہم سے بات کرنا چھوڑ دیا، لہذا آب نامردی کا داغ ہی لے کر یہاں سے پلٹنا ہو گا۔

پھر آپ رونے لگتے اور آپ کے ساتھیوں کی آنکھیں بھی نہ ہو جاتیں۔^(۱)
حضرت مالک بن دینار یہ دو شعر بھی اکثر پڑھا کرتے تھے :

لَنَا الْجَوَابُ وَلَكُنْ زَدْنَا أَحْزَانًا
وَمَنْ يُزَرِّهُنْ يَرْجِعُ مِنْ زِيَارَتِهَا
يُعَنِّي جَسْ وَقْتٍ هُمْ نَزَّقُوا بَرِّيَّةَ الْقَبْرِ
جَوَابَ نَدَاءِ كَرْهَةِ مَارِيَّةَ الْقَبْرِ
لیکن جو ان قبروں کی زیارت کرتا ہے اور پھر پلٹ کر جاتا ہے تو اسے اتنی یقین
دہانی تو ضرور ہو جاتی ہے کہ ایک روز ہمیں بھی موت کے پکھٹ پر اُترنا ہے۔^(۲)

صحیفہ ہائے سماویہ کی کچھ دل لگاتی باتیں

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں کتابوں کا کیڑا تھا، اور کتابوں کی تلاش میں مارا مارا پھرا کرتا تھا، ایک بار کسی گرجا گھر میں گیا تو میز پر پڑی کتاب میں لکھا دیکھا :
یا ابن آدم لم تطلب علم ما لم تعلم و أنت لا تعمل بما تعلم .^(۳)

(۱) عيون الاخبار: ۲۲۹/۱..... مختصر تاریخ دمشق: ۱۹۸/۷۔

(۲) مختصر تاریخ دمشق: ۱۹۸/۷۔

(۳) حلیۃ الاولیاء: ۳۸۲/۱۔

☆ الشتعانی نے انسان کو شرف بخشنا ہے؛ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دوسرا مخلوق پر ظلم ڈھانے۔

یعنی اے ابن آدم! تو اس چیز کا علم کیوں حاصل کرتا ہے جو نہیں جانتا جب کہ تو اپنے اس علم پر عمل پیرا نہیں جو تجھے حاصل ہے۔
حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ توریت میں تحریر ہے :

کما تدین تدان، و کما تزرع تحصد۔ (۱)

یعنی جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اور جو بوو گے وہی کاٹو گے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کتب حکمت میں پڑھا ہے :

إِنَّ اللَّهَ يَغْضِبُ كُلَّ حَبْرٍ سَمِينَ۔ (۲)

یعنی اللہ تعالیٰ بہت موٹے اور کچھ شیخ دینی پیشواؤ کو پسند نہیں فرماتا۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا تھا :

أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ۔ (سورہ یوسف: ۹۲/۱۲)

اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر بھی کر دینا (شاید اسے یاد آجائے کہ ایک اور بے گناہ بھی قید میں ہے)۔

(۱) اقتداء لعلم اعمل خطيب بغدادی: ارج ۳۷۱ حدیث: ۱۶۳..... الزہد لابی حاتم رازی: ۹۳/۱ حديث: ۹۳..... فیض القدری: ۶۷۲۔

(۲) تفسیر بغوی: ۱۶۷/۳۔

☆ سورة یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں پنهان ہیں۔ اہل علم نے اپنے ذوق کے مطابق اس پر مفصل بحثیں فرمائی ہیں؛ مگر یہاں مذکورہ بالا آیت کریمہ کی مناسبت سے اس پوری سورہ کے اندر حضرت علامہ نعمانی صاحب قبلہ سے مسوعہ ۱۲ ارعد کی برکات دیکھیں اور کرشمہ خداوندی ملاحظہ فرمائیں :

(۱) پارہ نمبر ۱۲۔ (۲) سورہ نمبر ۱۲۔ (۳) تعداد روکوئ۔ (۴) حضرت یوسف سمیت بجا ہیوں کی تعداد ۱۲۔ (۵) جس وقت آپ نے گیارہ ستاروں والا خوب دیکھا اس وقت آپ کی عمر ۱۲ اسال۔ (۶) کنویں میں گرتے وقت آپ کی عمر ۱۲ اسال۔ (۷) پھر آپ کی کل مدت قید بھی ۱۲ اسال تھی۔ اور مذکورہ بالا آیت میں حروف بھی ۱۲ ایں جو آپ کے جیل میں رہنے کی مدت کو آنکھا کر رہے ہیں۔ چریا کوئی۔

☆ صفات آفتاب کی طرح ہے جسے کسی کا ذذب اندھیرے کا ذریں ہوتا۔

تو ہاتھ فیضی سے آواز آئی: اے یوسف! کیا تو نے ہمارے علاوہ بھی کسی کو اپنا وکیل و کار ساز ڈھونڈ لیا ہے، اب دیکھو ہم تمہاری مدت قید کیسے بڑھاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یوسف روشنی سے، اور عرض کیا: اے پروردگار! طومارِ بلا کے باعث دل سے بات اُتر گئی تھی، اب آئندہ بھی ایسا نہ ہو گا۔^(۱)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ کسی صحیفہ سا ویہ میں آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے :

إِنِّي أَنَا اللَّهُ مَالِكُ الْمُلُوكِ قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِي وَنُوَاصِيهَا
بِيَدِي فَمَنْ أطاعَنِي جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَمَنْ عَصَانِي جَعَلْتُهُمْ
عَلَيْهِ نَقْمَةً فَلَا تَشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِسَبِّ الْمُلُوكِ وَلَكُمْ تُوبَوَا إِلَى
أَجْعَلْهُمْ عَلَيْكُمْ رَحْمَةً .^(۲)

یعنی میں اللہ ہوں، شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ بادشاہوں کے دیدہ و دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ اب اگر خلوق میری بندگی و طاعت میں زندگی بر کرتی ہے تو میں ان بادشاہوں کو ان کے لیے سامانِ رحمت بنا دیتا ہوں۔ اور اگر وہ نافرمانی و سرکشی کرتی ہے تو انھیں عذاب سراپا بنا کر ان پر مسلط کر دیتا ہوں؛ لہذا بادشاہوں کو برا بھلا کہنے میں اپنی جانیں نہ کھپاؤ بلکہ میری طرف توبہ و رجوع لاو میں ان کو تمہارے لیے سراپا رحمت بنا دوں گا۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کسی آسمانی کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

(۱) تفسیر بغوی: ۱۴۳/۳..... تفسیر ابن الجائم: ۳۶۹/۸..... تفسیر خازن: ۱۹/۳..... تاریخ ارسل والملوک: ۱۳۲/۱..... تفسیر سراج منیر: ۱/۱..... ۱۲۷/۱۔

(۲) بحر العلوم سرقدي: ۲۸۷..... تفسیر رازی: ۳۸۲/۲..... تفسیر البابر لابن عادل: ۲/۳۷..... مجمع کبیر طبرانی: ۲۲۲/۲۰..... حدیث: ۲/۱..... حلیۃ الاولیاء: ۱/۱..... الحضرت فی كل فن منظر: ۲۸۳/۱..... موسوعۃ اطراف الحدیث: ۹۲۲۲/۱..... حدیث: ۹۲۰۲۲/۱.....

☆ برا انسان، نیک لوگوں کی تعریف سے اچھا نہیں ہوتا اور نیک انسان بے انسان کی نہت سے برائیں ہوتا۔

افنى أعدائى بآعدائى ثم أفنىهم بأوليائى . (۱)
 یعنی پہلے میں اپنے باغیوں کو دوسراے باغیوں سے نابود کراتا ہوں اور پھر ان
 دوسروں کو اپنے بندگان مقرب کے ذریعہ فتاکے گھاث اُترواتا ہوں۔
 حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

مکتوب على باب الجنة وجدنا ما عملنا ربنا ما قدمنا خسرنا
 ما خلفنا . (۲)

یعنی با ب جنت پر لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ اعمال کیے اس کا ہمیں بھر پور صلہ ملا، جو
 کچھ آگے بھیج دیا تھا اس میں خوب نفع پایا اور جو بھیچھے چھوڑ آئے اس میں سوائے
 خسارہ کے کچھ باتھنہ لگا۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کسی آسمانی کتاب میں لکھا دیکھا تھا :
 سبحان الله أيها الصديقوون بأصوات حزينة . (۳)

یعنی اے اہل صدق و صفا! اللہ کی تسبیح تہلیل، شکستہ آواز (اور دل گرفتہ)
 ہو کر کیا کرو۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے زبور کے اندر یہ فرمان قدرت
 لکھا دیکھا ہے :

إني أنتقم من المنافق بالمنافق، ثم أنتقم من المنافق جميعاً، و
 ذلك في كتاب الله قول الله : وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ
 بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

(۱) نظم الدرر فی تائب الآی وال سور للبقاعی: ۱۳۳/۳:۔

(۲) تفسیر نسفي: ۲۱۸/۳..... تفسیر کشاف: ۳۲/۷..... تفسیر بحر مدید: ۲۹۲/۶:۔

(۳) حلیۃ الاولیاء: ۳۷/۲۱:۔

☆ نیت درست کر لیجیتا کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا آچھا برناو عبادت کا درجہ اختیار کر لے۔

یعنی میں منافق کا بدلہ و انتقام خود منافق کے ذریعہ ہی لیتا ہوں، اور پھر اس منافق سے پورا پورا بدلہ لیتا ہوں۔ اور قرآن میں بھی اس کی تقدیم موجود ہے، چنانچہ ذیل کی آیت سے یہی بتانا مقصود ہے: اسی طرح ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض پر مسلط کرتے رہتے ہیں، ان اعمال (بد) کے باعث جو وہ کمایا کرتے تھے۔ (۱)

امام احمد اور ابو حیم نے حیله میں حضرت مالک بن دینار کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے توریت کے اندر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے :

اے اہن آدم! اپنی نمازوں میں میرے حضور گریہ کنان کھڑے ہونے سے غفلت نہ برت؛ کیوں کہ تیرا مالک و معبود میں ہی تو ہوں جس نے تیرے قلب پر نگاہِ رحمت کی تو اس پر غیب کے اسرار و انوار عیاں ہو گئے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ حلاوت و سرور ہے جو ایک مردِ مومن عبادتوں کے نتیجے میں اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ (۲)
امام احمد نے حضرت مالک بن دینار کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ آپ نے توریت میں لکھا دیکھا ہے :

من يزدد علماً يزداد وجفاً، وقال: مكتوب في التوراة من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينفعه فهو شريكه . (۳)

یعنی جس کا پیارہ علم و فضل بڑھتا رہتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کی خشیت و بکا میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ نیز اس میں یہ بھی تحریر ہے کہ جس کا کوئی پڑاوی بدکار یوں میں گرفتار ہو اور یہ (قدرت کے باوجود) اسے منع نہ کرے تو اس کے عمل بد میں یہ بھی برابر کاشر یک مانا جائے گا۔

(۱) تفسیر ابن ابی حاتم: ۳۸۸/۵۔ (۲) تفسیر درمنثور: ۳۲۲/۳۔

(۳) تفسیر درمنثور: ۳۲۵/۳.....الزہد لاحمد بن حنبل: ۵۰/۲.....الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ابن ابی الدنيا: ۹۶/۱.....حدیث: ۹۵۔

☆ حال کی اصلاح کے لیے خیال کی اصلاح ضروری ہے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں پڑھا ہے :

طوبی لمن لم یسلک سبیل الآثمين ولم یجالس الخطائين و
لم یدخل فی هزو المستهزئین . (۱)

یعنی مردہ و بشارت ہواں کے لیے جو گناہ گاری کی راہ نہیں چلتا۔ اہل خطاء کے ساتھ نہ سوت نہیں کرتا، اور بخشمہ اماروں کی مخفی میں حصہ نہیں لیتا۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے :
الذی یغلب علمه هواء، فذلک العالم الغلام . (۲)

یعنی جس کا علم اس کی شہوت پر بازی مار لے جائے تو سمجھو کر وہی کامیاب اور زبردست عالم ہے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے توریت کے اندر لکھا دیکھا ہے کہ ایک عالم جب خود اپنے علم پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو اس کا وعظ و بیان لوگوں پر بالکل ہی بے اثر ہوتا ہے اور ان کے دلوں سے ایسے پھسل جاتا ہے جیسے بارش کے قطرے چکنی چٹان سے بلا کلف ڈھلک آتے ہیں۔ (۳)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کسی آسمانی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے : اے ابن آدم ! میری طرف سے خبر و برکت کی سوغات تمہاری طرف پہنچتی ہے؛ مگر تم فشق و فجور کے تختے مجھے روانہ کرتے ہو۔ میں تو نعمت ہائے گونا گوں بچھ کر تمہاری خوشیوں میں اضافہ کرتا ہوں مگر تم جرم و خطأ بچھ کر میرا غصہ مول لیتے ہو۔ اور

(۱) تفسیر روح البیان: ۱۱/۳۲۷۔

(۲) شعب الایمان تبیقی: ۳۲۳/۲: ۱۷۸۵۔

(۳) شعب الایمان تبیقی: ۳۵۷/۲: ۱۷۹۲..... حلیۃ الاولیاء: ۹۲/۳۔

☆ حاصل کرنے کی تمناً نیا ہے اور دینے کی تمنادیں ہے۔

ہنوز تم پر مقرر کردہ فرشتے تمہارے برے اعمال لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، (تمہاری ان جفاوں کا سلسلہ کتنا دراز ہو گا؟ کیا آجھی وہ وقت نہیں آیا تم اپنے رب کریم کی طرف توبہ ورجوع لاؤ)۔ (۱)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کے اندر لکھا دیکھا ہے :

ان الذي يعمل بيده، ويأكل طوبى لمحياه و مماته . (۲)
یعنی جو شخص اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اس کی زندگی اور موت دونوں تابناک ہے (اور اسے دارین میں فوز و فلاح کا مرشد ہے)۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی صحیفہ آسمانی میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

إن أهون ما أصنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة
مناجاتي من قلبه . (۳)

یعنی جب ایک عالم کا دل دنیا کی محبت میں شیفتہ و وارفتہ ہو جاتا ہے تو میں کم سے کم اس کے ساتھ اتنا ضرور کرتا ہوں کہ اپنی مناجات کی لذت و حلاوت اس کے دل سے محکور دیتا ہوں۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے توریت کے اندر لکھا دیکھا ہے :

(۱) شعب الایمان بیہقی: ۱۰/۱۱۲ حدیث: ۲۷۱۳..... طبقات احتجابیة: ۱/۲۷..... موسوعۃ اطراف الحدیث: ۱/۲۸۹۰۲ حدیث: ۲۸۸۸۲۲..... التوبیب الموضوع للآحادیث: ۱/۲۹۶۷.....

(۲) اصلاح المال ابن ابی الدین: ۱/۱۳۰ حدیث: ۱/۳۹۶..... شرح ابن بطال: ۱/۲۷..... الجمال وجابر: ۱/۳۵۶.....

(۳) احیاء علوم الدین: ۱/۲۶.....

☆ انسانوں سے اچھا سلوک ان کے انسان ہونے کے ناطے کیجیہ نہ کہ ان کی صورت، ان کے مال و منصب کی بنا پر۔

ردوأبصارك عَلَيْكُمْ وَلَا تَمْدُوهَا إِلَى غَيْرِكُمْ فَإِنْ لَكُمْ فِيهَا

شغلا . (۱)

یعنی اپنی نگاہوں پر پھرے بٹھاؤ، اور اسے کسی اور طرف بیننے نہ دو؛ کیوں کہ ان آنکھوں میں تمہارے لیے بہت کچھ کام ہے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے کسی صحیفہ آسمانی میں لکھا دیکھا تھا : (اللہ فرماتا ہے کہ) اے گروہ ظالمائی! تم میرے ذکر کا حلقة کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو؛ کیوں کہ وہ جب مجھے یاد کرتے ہیں تو میں بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ انھیں یاد کرتا ہوں۔ لیکن جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں لعنت و غضب کے ساتھ تمہیں یاد کرتا ہوں (یہاں تک کہ تم ظلم سے توبہ کرو)۔ (۲)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے توریت میں لکھا دیکھا :

مثل امرأة حسناء لا تحصن فرجها كمثل خنزيرة على
رأسها قاج وفي عنقها طوق من ذهب .

یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے والی حسین و جمیل عورت کی مثال اس خزیر کی سی ہے کہ جس کے سر پر تاج اور گلے میں زریں ہار ہو۔

اس پر کسی کہنے والے نے کہا کہ ذرا دیکھو کہ زیورات کتنے حسین ہیں اور جانور کتنا

بد صورت ہے۔ (۳)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانی صحائف میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دو ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جو جبرئیل

(۱) تاریخ دمشق: ۸۲/۱۳۔

(۲) سراج الملوك: ۱/۱۲۵.....الجالس و جواہر العلم: ۲۳۸/۱۔

(۳) حلیۃ الاولیاء: ۳۸۲/۱۔

☆ علم اگر خود آگئی کے قریب کرے تو نور و نہ جا ب ا!

و میکا میل کو بھی عطا نہیں ہوتی۔ اول نعمت یہ ہے کہ فَإِذْ شُكُرُنِي أَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور دوسرا نعمت یہ ہے: أَذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔

نیز آپ نے فرمایا کہ توریت میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول میں نے پڑھا ہے کہ اے صد یقین! میرے ذکر سے دنیا میں آرام کے ساتھ زندگی گزارو؛ کیوں کہ دنیا میں میرا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت میں اس سے اجر عظیم حاصل ہو گا۔ (۱)

بعض آسمانی کتابوں میں ہے کہ جو دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے میرا ادنیٰ برتا و اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں ذکر و مناجات کی لذت سے اس کو محروم کر دیتا ہوں۔ اور جو شخص خواہشات دنیا کی طرف دوڑتا ہے، شیطان اس کو فریب دینے کی اس لیے فکر نہیں کرتا کہ وہ تو خود ہی گم کر دہ راہ ہے۔ (۲)

انبیاء سے سابقین کے ارشادات و واقعات

حضرت جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار کو ارشاد باری تعالیٰ: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ کی یوں تفسیر کرتے ہوئے سنائے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پایہ عرش تلے کھڑا کر کے کہا جائے گا: اے داؤد! جس نغمہ نیز اور پر سوز لب ولہجہ میں دنیا کے اندر تم میری مجد و بزرگی کا گیت گاتے تھے آج بھی میری حمد و شنا کا کچھ ویسا ہی تاریخ چھیڑ دو۔

عرض کریں گے: باری تعالیٰ! آواز کی وہ نغمگی اور سحر طرازی تو آب جاتی رہی؟ فرمائے گا: چلو آواز کا وہ جادو و کمال میں تمہیں دوبارہ عطا کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ پھر حضرت

(۱) تذكرة الاولیاء مترجم: ۳۲۔

(۲) تذكرة الاولیاء مترجم: ۳۲۔

☆ لوگوں سے ایسی باتیں کریں جن میں وہ دلچسپی لیں نہ کہ ایسی باتیں جن سے آپ کو دلچسپی ہو۔

داوٰ دعیٰ السلام بلند لے میں ایسی خوش آوازی سے نغمہ سرا ہوں گے کہ جسے سن کر سارے باشندگان بہشت وجد و کیف میں ڈوب جائیں گے۔^(۱)

امام احمد نے ”کتاب الزہد“ میں حضرت مالک بن دینار کے حوالے سے یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کسی نبی کی مبارک زبان سے کہلوایا :

قل لبني إسرائيل تدعوني بالستكم و قلوبكم بعيدة مني باطل
ما تدعوني، وقال: تدعوني و على أيديكم الدم، اغسلوا أيديكم
من الدم، أي من الخطايا هلموا نادوني .^(۲)

یعنی بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ تمہاری زبان میں تو دعاوں میں مشغول ہیں حالانکہ تمہارے دل مجھ سے کوسوں دور ہیں؛ لہذا تمہاری ساری دعا میں رایگاں ہیں۔ اور فرمایا: تم مجھے پکارتے ہوئے ہو؛ مگر یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے ہاتھ ناقن لہو میں رنگے ہوئے ہیں۔ پہلے اپنے ہاتھوں کو خون (یعنی گناہوں) کی نجاست سے پاک کرلو، پھر آکر مجھے آواز دینا۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل سخت قسم کی آزمائش و بلا اور قحط سالی سے دوچار ہوئے؛ لہذا اپنے بیوں پر دعا میں سجائے گھر سے باہر نکل آئے۔ اس وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مطلع فرمایا کہ ان سے جا کر فرمادیں :

تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسية، و أيد قد سفكتم بها
الدماء، و ملأتم بطونكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي
عليكم، ولن تزدادوا مني إلا بعدا .

(۱) تفسیر ابن کثیر ز ۲۲۷.....تفسیر ابن ابی حاتم: ۱۳۵/۱۲.....مسنون ابو عوانہ: ۱۹۲/۸.....متخرج ابو عوانہ: ۳۱۷/۲.....محضر قیام المیل محمد بن نصر مروزی: ۱/۲۰۱.....تخصیص الانبیاء: ۲۷۵/۲.....بغایۃ الطلب فی تاریخ حلب: ۳۹۱/۳.....النهایۃ فی الفتن والملامح: ۲۲۸/۱.....غیرہ الحدیث لابن قشیر: ۳۱۳/۲.....لسان العرب: ۲۳۳/۱۲.....النهایۃ فی غریب الالاثر: ۵۰۸/۲.....الجالس وجواہر العلم: ۱/۱۵۲.....

(۲) تفسیر درمنشور: ۱/۳۹۳۔

☆ دشمن سے ایسا معاملہ نہ کریں کہ اگر وہ دوست ہو جائے تو شرمندگی اٹھانی پڑے۔

یعنی گناہوں سے آسودہ بدن لے کر تم (دعا کی خاطر) ٹیلوں پر چڑھ آئے ہو۔
ذرا اپنے ہاتھوں کو دیکھو وہ ناحن خون کی سرخیوں سے کیسے رنگے ہوئے ہیں۔
اپنے پیٹ کا جائزہ لو کہ وہ حرام خور یوں سے کیسے بھرے ہوئے ہیں۔ اور اب
جب کہ میرا غیظ و غصب شباب پر آپنچا ہے (تم دعاوں کے لیے کل آئے ہو،
مگر یاد رہے کہ تمہاری دعائیں تو قبول نہیں ہوں گی) ہاں! تم ان کے ذریعہ میری
رحمتوں سے دور ضرور ہوتے چلے جاؤ گے۔ (۱)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کسی پیغمبر کو

بذریعہ وحی مطلع فرمایا :

قل لقومك، لا يدخلوا مدخل أعدائي، ولا يطعموا مطاعم
أعدائي، ولا يركبوا مراكب أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم
أعدائي . (۲)

یعنی اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ دو کہ وہ میرے دشمنوں کی گزرگاہوں میں نہ جایا
کریں، نہ ان کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کھانا کھایا کریں، اور نہ ان کی سواریوں پر
چڑھ کر سواری کیا کریں؛ ورنہ ان کا شمار بھی میرے دشمنوں ہی میں ہوگا۔

امام احمد نے حضرت مالک بن دینار کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھ
تک یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے بیٹے سے کہا :

امش وراء الأسد و لا تمش وراء امرأة . (۳)

(۱) الزہلابی داکو: اہر احادیث: ۱۳.....جامع العلوم والحكم: ۲۸/۱۲.....احیاء علوم الدین: ۱/۳۱۵۔

(۲) الامر بالمعروف وانهي عن المكروه ابن ابي الدنيا: ۱/۸۷ حدیث: ۷.....شرح ابن بطال: ۸۲/۱۱.....الزواجر عن اقتراض الكبار: ۱/۲۹۔

(۳) تفسیر درمنثور: ۷/۲۹۔

☆ دوست، جفا سے دشمن ہو جاتا ہے اور دشمنِ احسانات سے دوست۔

یعنی اگر تمہیں شیر کے پیچھے چلانا پڑے تو چل لینا مگر کسی عورت کے پیچھے چلنے کی سارت کبھی نہ کرنا۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا :

یا رب این ابیگیک؟ قال: ابغنی عند المنکسرة قلوبهم . (۱)

یعنی اے پروردگار! میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ فرمایا: شکستہ خاطر اور رُٹے ہوئے دلوں کے پاس۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل اس کے اندر بیٹھے خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے کپڑے کا کوڑا بنا کیا اور انھیں ضرب کاری لگاتے ہوئے فرمایا :

یا بنی الحیات والافاعی اتخاذتم مساجد اللہ اسوافا . (۲)

اے سانپ کے بچو! اللہ کے گھر کو تم نے بازار بنا رکھا ہے!

ابن عساکر نے حضرت مالک بن دینار کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا :

معاشر الحواریین إن خشية الله و حب الفردوس يورثان
الصبر على المشقة، و يبعدان من زهرة الدنيا . (۳)

یعنی اے حواریوں کی جماعت! اللہ کی سچی خشیت اور جنت کی واقعی چاہت تکلیف و مشقت کے وقت صبر و ضبط کی تلقین کرتی ہے۔ اور دنیا کی زیب و آرائش سے دور رہنے کا سبق دیتی ہے۔

(۱) حلیۃ الاولیاء: ۳۷۲۱۔

(۲) حلیۃ الاولیاء: ۳۸۲۱۔

(۳) تفسیر درمنثور: ۳۲۷۲۔

☆ دُشْن کا جب کوئی جیلنیں چلتا تو دوستی کے بیڑا یہ میں ڈنک مارتا ہے۔

امام احمد نے حضرت مالک بن دینار کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی مطلع فرمایا :

عظ نفسك فإن انعظت فعظ الناس، وإنما فاستحي مني . (۱)

یعنی پہلے اپنے نفس کو وعظ و نصیحت کر، اگر وہ تمہاری بات مان جائے تو پھر لوگوں کو جا کر پند و نصائح کرنا؛ ورنہ مجھ سے حیا کرو۔

حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا :

النجاة في ثلاث خصال: تبكي على خطيبتك، وتحرس لسانك، وتلزم بيتك . (۲)

یعنی نجات کا راز تین خصلتوں میں پوشیدہ ہے۔ جب غلطی ہو جائے تو اس پر آنسو بھاؤ، اپنی زبان پر پھرا بٹھائے رکھو، اور اپنے گھر کی چہار دیواری کو اپنے اوپر لا زم کرلو۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا :
لو أن ابن آدم عمل بأعمال البر كلها و حب في الله ليس و
بغض في الله ليس ما أغنى ذلك عنه شيء . (۳)

یعنی اگر ابن آدم جملہ اعمال خیر بجالائے، مگر وہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی صفات سے بے بہرہ ہو تو محض اس کے اعمال اس کے کسی کام نہ آئیں گے۔

(۱) تفسیر درمنثور: ۳۳۱/۲..... الزہد لاحمد بن حنبل: ۱/۳۱۲..... حدیث: ۳۰۶..... الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ابن أبي الدنيا: ۱/۹۸..... حدیث: ۷..... فیض القدری: ۱/۱۰۷..... حلیۃ الاولیاء: ۱/۳۸۵۔

(۲) التدوین فی اخبار قزوین: ۱/۲۲۳۔

(۳) تاریخ دمشق: ۲/۲۲۵۔

☆ جن کے پاس تقرب نہیں ہے اُن کو جلد غصہ آتا ہے۔

ابن عساکر نے حضرت مالک بن دینار کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا :

أَكَلَ الشَّعِيرَ مَعَ الرَّمَادِ، وَ النَّوْمُ عَلَى الْمَزَابِلِ مَعَ الْكَلَابِ،
لَقَلِيلٌ فِي طَلْبِ الْفَرْدَوْسِ . (۱)

یعنی طالبان فردوس اگر بھوکوریت کے ساتھ ملا کر کھائیں، اور خس و خاشاک پر کتوں کے ساتھ سوئیں، تب بھی کم ہے!۔

ابن ابی الدنیا اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت مالک بن دینار کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی ایسے گھر سے گزرتے جہاں کوئی جنازہ ہوتا تو آپ وہاں رُک کر فرماتے: خرابی ہوتھا رے آقاوں کے لیے جو تمہیں اس گھر کا وارث بنانے ہیں؛ مگر حیرت ہے تم پر کتم نے اپنے گزشتہ بھائیوں کے اقوال و افعال سے کوئی عبرت نہیں پکڑی!۔ (۲)

بیہقی نے حضرت مالک بن دینار کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا اے روح اللہ! کیا ہم آپ کے لیے کسی گھر کی تعمیر نہ کریں؟ فرمایا: کیوں نہیں بالکل۔ مگر شرط یہ ہے کہ وہ ساحل سمندر پر ہونا چاہیے۔ بولے: پھر تو موجیں اسے بہا لے جائیں گی۔ فرمایا: تو تم کہاں بنانا چاہتے ہو، کیا اپل کے اوپر گھر بناؤ گے؟۔ (۳)

امام احمد نے حضرت مالک بن دینار کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بطورِ خاص دعا فرمائی :

(۱) تفسیر در منثور: ۳۳۷/۲..... قصص الانبياء: ۳۳۷/۲:-۔

(۲) تفسیر در منثور: ۳۲۸/۲:-۔

(۳) تفسیر در منثور: ۳۲۸/۲..... شعب الایمان بیہقی: ۱۵۸/۲۲: احادیث: ۱۰۳۳۸:-۔

☆ لوگوں کو ان کی قدر و قیمت جتا کر آپ ان کے دل جیت سکتے ہیں۔

اللَّهُمَّ اجْعِلْ حَبْكَ أَحَبَّ إِلَيْيَ منْ نَفْسِي وَسَمْعِي وَبَصْرِي وَ
أَهْلِي وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ . (۱)

یعنی اے خداوند! میرے دل میں اپنی محبت کی جڑیں اتنی مضبوط فرمادے کہ
اس کے سامنے میرے اپنے نفس، چشم و گوش، اہل و عیال اور مٹھنے سے پانی کی محبت
یقیناً ہو کر رہ جائے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا :

يَا مَعْشِرَ الْأَنْبِيَاءِ، تَعَالَوْا حَتَّى أَعْلَمْكُمْ خَشِيَّةَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَوْهُ أَيْمًا
عَبْدُكُمْ أَحَبُّ أَنْ يَحْيَا وَيَرَى الْأَيَّامَ الصَّالِحةَ فَلِيَحْفَظْ عَيْنِيهِ أَنْ
يَنْظَرَ إِلَى سَوءٍ، وَلِسَانَهُ أَنْ يَنْطَقَ بِالْإِفْكَ . (۲)

یعنی اے پیغمبر و آئے کہ میں تمھیں خشیتِ الہی کے رازوں پر اطلاع بخشوں۔ تم
میں سے جو شخص پاکباز زندگی اور اچھے دنوں کا آرزومند ہے اسے چاہیے کہ اپنی
لگاہوں کو برائیوں اور بے حیائیوں کی طرف اٹھنے سے روکے۔ اور اپنی زبان پر
دروغ و بہتان سے بچاؤ کا پھرہ بٹھادے۔

حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے :
إنَّ هَذَا الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ خَرَانَتَانَ، فَانْظُرُوا مَا تَضَعُونَ فِيهِمَا، وَ كَانَ
يَقُولُ: اعْمَلُوا لِلَّيْلِ لِمَا خَلَقَ لَهُ، وَاعْمَلُوا لِلنَّهَارِ لِمَا خَلَقَ لَهُ . (۳)

(۱) تفسیر درمنثور: ۳۹۶/۸.....شعب الایمان: ۷۴۱: ۳۸۲/۱.....تاریخ دمشق: ۱۰۶/۱.....تاریخ دمشق: ۷/۱۔

(۲) امامی ابن بشیر: ۱۵۲/۱: ۱۳۷.....اعتلال القلوب خراطی: ۲۹۰/۱: ۲۷۰.....مکارم الاخلاق خراطی: ۳۰۸/۱: ۳۸۳.....بغية طلب في تاريخ حلب: ۳۹۹/۳: ۱۷۷.....اشتی من کتاب مکارم الاخلاق و معالیها: ۳۲۱/۱۔

(۳) الرہبر الکبیر: ۷۸۹: ۷/۸.....تاریخ دمشق: ۷/۲.....تاریخ دمشق: ۲۳۵/۲۔

☆ عجیب بات ہے کہ لوگ دین کو دنیا سے اچھا سمجھتے ہیں اور پھر دنیا کو خریدتے ہیں!

یعنی دن اور رات دو خزانے ہیں؛ لہذا دیکھتے رہو کہ تم ان خزانوں میں کیا ڈال رہے ہو، (کیوں کہ یہ خزانے سر محشر پھر تمہارے روپ و کھولے جائیں گے) آپ نے مزید فرمایا: لہذا رات کے جو کام ہوتے ہیں وہ رات میں اور دن کے جو کام ہیں انھیں دن میں سرانجام دیا کرو، (اور وقت کی قدر دانی کرنا سیکھو)۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا کرتے تھے :

أيَّهَا النَّاسُ إِذَا شَجَرَةً مَرَّةً، فَإِذَا مُرِنَ بَكْمٍ فَغَضَبُوا أَعْيُنَكُمْ،
وَإِذَا كَرُوا مَعَادَكُمْ كَيْ لَا تَقْعُوا فِيمَا وَقَعَ فِيهِ دَاؤُدُ الْخَاطِئِ،
سَبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ.

وَكَانَ يَقُولُ : رَبُّ أَمْدَعِينِي بِالدَّمْوعِ، وَجَهْتِي بِالسُّجُودِ، وَ
رَكْبَتِي الرَّكْوَعُ، وَضَعْفِي بِالْقُوَّةِ، حَتَّى أَبْلَغَ رَضَاكَ عَنِي،
سَبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ . (۱)

یعنی اے لوگو! عورتوں کی مثال کڑوے درخت کی سی ہوتی ہے؛ لہذا جب کبھی بھی ان کا تمہارے آگے سے گزر ہو، آخرت کا سوچ کر تم اپنی نگاہیں نیچی کر لیا کرو؛ ورنہ کہیں تم بھی اسی جاں میں نہ پھنس جانا جس میں داؤد خاطلی گرفتار ہو گیا ہے۔ خالق نور کی ذات پاک ہے۔

اور فرمایا کرتے : اے پروردگار! (کچھ ایسا کر دے کہ) میری آنکھیں آنسوؤں سے اٹھ آئیں، میری جسمیں نیاز لذتِ سبود سے آشنا ہو جائے، میرے گھنٹے ذوقِ رکوع سے بہرہ مند ہو جائیں، اور میری ناقوانی قوی و قوانا ہو جائے؛ تاکہ اُن کے ذریعہ تیری منزلِ رضاکَت پچھے کا سامان ہو جائے۔ خالق نور کی ذات پاک ہے۔

(۱) البرقة والبكاء: ۳۱۵ حدیث: ۳۹۵۔

☆ داناً یہ ہے کہ آپ کامل، آپ کے علم کے تابع ہو۔

بزرگوں کی باتیں باتوں کی بزرگ

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

لَمْ يَقِنْ مِنْ رُوحِ الدُّنْيَا إِلَّا ثَلَاثَةٌ : لِقاءُ الْإِخْرَانِ وَ التَّهْجِيدُ
بِالْقُرْآنِ وَ بَيْتٌ خَالٍ يَذَكُّرُ اللَّهَ فِيهِ .

یعنی دنیا کی راحت سے صرف تین چیزیں باقی ہیں: احباب کی زیارت، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ تہجد کی ادائیگی اور خالی گھر جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔

حضرت مالک بن دینار کو فرماتے سنائی گیا :

كُمْ مِنْ رَجُلٍ يُحِبُّ أَنْ يَلْقَى أَخَاهُ وَ يَزُورَهُ فَيُمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ
الشُّغُلِ وَ الْأَمْرِ يُعْرَضُ لَهُ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْمِعَ بَيْنَهُمَا فِي دَارِ لَا
فِرْقَةٍ فِيهَا ، ثُمَّ يَقُولُ مَالِكٌ : وَ أَنَا أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمِعَ بَيْنَنَا وَ
بَيْنَكُمْ فِي ظَلِّ طَوْبَىٰ وَ مَسْتَرَاحِ الْعَابِدِينَ .

یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے دوست آشنا سے ملاقات و زیارت کی تھیں
رکھتے ہیں مگر مصروفیت آڑے آجائی ہے یا کوئی کام نکل آتا ہے۔ قریب ہے کہ
اللہ تعالیٰ انھیں ایک ایسے گھر میں جمع فرمادے جہاں ہم وقت سگت نصیب ہو گی
جدائی کا کوئی تصور ہی نہ ہو گا۔ پھر حضرت مالک فرماتے: میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ
سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں عابدین کی آرامگاہوں اور درخت طوبی کے سایہ تھے
اکٹھا فرمادے۔ (۱)

حضرت مالک بن دینار - رحمۃ اللہ علیہ - فرماتے ہیں :

(۱) حلیۃ الاولیاء: ۳۲۶۱

☆ بے مقصد انسان مرتا ہی رہتا ہے۔ اور بے مقصد مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔

القيامة عرس المتقين . (۱)

یعنی بازارِ قیامت میں اربابِ تقویٰ و طہارت کی بہاریں ہوں گی۔

حضرت مالک بن دینار نے فرمایا :

من لم يأنس بحديث الله عن حديث المخلوقين فقد قل عمله
و عمى قلبه و ضاع عمره . (۲)

یعنی جسے مخلوق کی باتوں کے مقابلے میں اللہ کی باتیں نہ بھائیں (اور حدیث الہی، اسے انس ولطف کا کوئی سامان فراہم نہ کرے) تو سمجھ لواہ کے اس کے عمل کی رفتار گھٹ گئی ہے، اس کے دل کی آنکھیں انڈھی ہو گئی ہیں، اس کا آٹاٹہ زیست بر باد ہو رہا ہے (اور اس کی کشتی حیات تیزی کے ساتھ ہلاکت کی سمت روای دوال ہے)۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونه . (۳)

یعنی آدمی کے خائن ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ خائنوں کی وکالت اور طرف داری کرے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

أتدرون كيف ينبت البر؟ كرجل غرز عوداً فإن مر صبي فنتفها
ذهب أصلها وإن مرت به شاة أكلتها ذهب أصلها و يوشك إن
سقي و تعوهد أن يكون له ظل يستظل به و ثمرة يؤكل منها،
كذلك كلام العالم دواء للخاطئين .

(۱) تفسیر درمنثور: ۲۲۱/۱۔

(۲) تفسیر روح المیان: ۳۱۹/۸۔

(۳) تفسیر بحر مدیر: ۳۸۲/۱: شرح میاردہ: ۳۲۲/۱۔

☆ پہاڑ کی بلند چوٹیاں چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سر کر لی جاتی ہیں۔

یعنی تمہیں پتا ہے کہ (دل کے اندر) نیکیاں کیسے جڑ پکڑتی ہیں؟ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کسی نے زمین میں کوئی کٹی ہوئی ٹہنی لگائی، ایک بچے کا ادھر سے گزر، وہ تو اس نے اسے جڑ سے اکھیر پھینکا، پھر ایک بکری پہنچ آئی جس نے اسے جڑ ہی سے کھالیا۔ اور ادھر قریب تھا کہ اگر اس کی آبیاری اور اچھی طرح سے دیکھ رکھ کی جاتی تو وہ ایک سایہ دار درخت بن جاتی جس سے سایہ بھی حاصل کیا جاتا اور اس کے پھل بھی کھائے جاتے۔ اسی طرح ایک عالم رباني کی باتیں بھی زیان کاروں اور عصیاں شعاروں کے لیے تریاق کا کام کرتی ہیں۔ (۱)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

كَفِيْ بِالْمَرءِ شَرًا أَنْ لَا يَكُونَ صَالِحًا وَ يَقْعُدُ فِي الصَّالِحِينَ . (۲)
یعنی آدمی کے شریار کم ظرف ہونے کے لیے بھی کافی ہے کہ وہ بذات خود تو صالح و نیک نہ ہو، مگر اپنے آپ کو یکے از صالحین گردانتا ہو۔

حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار کو یہ فرماتے ہوئے سنا :
إِنَّ الصَّدِيقِينَ إِذَا قَرَأُوا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ طَرَبَتْ قُلُوبُهُمْ إِلَى
الآخِرَةِ . (۳)

یعنی جب صدیقین (اور اہل صدق و صفا) کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل، آخرت کے باغوں کا تصور کر کے خوشی میں جھومنے لگتے ہیں۔

حضرت مالک بن دینار نے فرمایا :

(۱) حلیۃ الاولیاء: ۱/۳۷۵۔

(۲) تفسیر ہمیان الزاد بالاضی: ۹/۲۰۳۔

(۳) اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزوۃ المعلوٰۃ والجہیۃ: ۱/۳۲۱۔

☆ عیب کوڈھوڈن ناعیب داروں کا شیوه ہے۔

لأن يترك الرجل درهما حراما خيرا له من أن يتصدق بمائة

ألف درهم . (١)

يعني كسي شخص كاحرام كے ایک درہم کو چھوڑ دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لا کھ درہم صدقہ کرے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

إذا رأيت قساوة في قلبك و وهنا في بدنك و حرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما لا يعنيك . (٢)

يعني جب تم اپنے دل کے اندر قساوت و سختی، بدن کے اندر تھاوث و سستی، اور رزق کے اندر رقلت و تسلی محسوس کرو تو سمجھ لوكہ تم نے ضرور کچھ نہ کچھ لا یعنی اور فضول با توں میں اپنا وقت عزیز صرف کیا ہے۔

حضرت مالک بن دینار نے فرمایا :

السوق مكثرة للمال، مذهبة للدين . (٣)

يعني بازار مال و دولت میں اضافے کا ذریعہ تو ضرور ہے مگر اس سے دین میں کی آجائی ہے۔

جعفر بن سليمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بن دینار کو فرماتے سنا :

قلب ليس فيه حزن مثل بيت خرب . (٤)

(١) الجالسو جواہر العالم: ٣٢١.

(٢) الکبار: ١٢٥..... فیض القدری: ٣٢٩..... الفواکہ الدوائی علی رسالتہ ابن ابی زید قیر وانی: ٣: ٣- ٣٣٥.

(٣) حلیۃ الاولیاء: ١/٣٨.

(٤) مصنف ابن ابی شیبہ: ١٣٢٨/ ١٥١..... شعب الایمان تہذیب: ٢/ ٣٣٥..... حدیث: ٩٠١..... اعتلال القلوب خراطی: ٨..... سیر اعلام النبلاء: ٥/ ٣٦٣.

☆ انسان کا مقصد اللہ کے ہتھے ہوئے مقصد سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔

یعنی جس دل میں حزن و ملال کا گزرنہ ہو وہ کسی دیران گھر کی مانند ہے۔

دوسری جگہ فرمایا :

إِنَّ الْقَلْبَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَزْنٌ خَرَبَ كَمَا أَنَّ الْبَيْتَ إِذَا لَمْ
يَسْكُنْ خَرَبَ . (۱)

یعنی وہ دل جو حزن و غم سے نا آشنا ہو وہ اجڑا ہے بالکل ایسے ہی جیسے مکان
مکینوں کے بغیر اجڑا ہوتا ہے۔

حضرت جعفر بن سلیمان کی زبانی مالک بن دینار کے حوالے سے سنائیا :
إِنَّ الْأَبْرَارَ تَغْلِي قُلُوبُهُمْ بِأَعْمَالِ الْبَرِّ وَإِنَّ الْفَجَارَ تَغْلِي قُلُوبُهُمْ
بِأَعْمَالِ الْفَجُورِ وَاللَّهُ يَرَى هُمُومَكُمْ فَانظُرُوا مَا هُمُومَكُمْ
رَحْمَكُمُ اللَّهُ . (۲)

یعنی نیکوں کے دل کا خیر کے باعث جوش مارتے رہتے ہیں ، جب کہ
 بدکاروں کے دل بد اعمالیوں کے باعث جوش مارتے ہیں۔ اور اللہ تمہارے دل
 کی چھپی نیتوں اور مقاصد کو ملاحظہ کرتا ہے؛ لہذا پنے عزم و مقاصد کے تعلق سے
 حساس رہو۔ اللہ تم پر رحمت فرمائے۔

حضرت محمد بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ
 حضرت مالک بن دینار فرمایا کرتے تھے :

الْمُؤْمِنُ كَرِيمٌ فِي كُلِّ حَالٍ لَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْذِي جَارَهُ وَ لَا يَفْتَقِرُ
أَحَدٌ مِنْ أَقْرَبَائِهِ قَالَ ثُمَّ يَسْكِي مَالِكَ وَ يَقُولُ وَهُوَ اللَّهُ مَعَ ذَلِكَ
غَنِيَ الْقَلْبُ لَا يَمْلِكُ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا إِنَّ أَزْلَتَهُ عَنِ دِينِهِ لَمْ يَزِلْ وَ

(۱) موسوعۃ اطراف الحدیث: ۱۱۲۷/۱ حديث: ۲۰۸۰۳.....المجالس و جواہر العلم: ۱/۵۷۰۔

(۲) موسوعۃ اطراف الحدیث: ۱۱۲۷/۱ حديث: ۲۹۸۲۱/۱

☆ بے کاری پر بیاری سے زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔

إِنْ خَدْعَتْهُ عَنْ مَالِهِ إِنْ خَدْعَ لَا يَرِي الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ عَوْضًا وَ لَا
يَرِي الْبَخْلَ مِنَ الْجُودِ حَظَا مِنْ كَسْرِ الْقَلْبِ ذُو هَمُومٍ قَدْ تَفَرَّدَ بِهَا
مَكْتَشِبٌ مَحْزُونٌ لَيْسَ لَهُ فِي فَرَحِ الدُّنْيَا نَصِيبٌ إِنْ أَتَاهُ مِنْهَا شَيْءٌ
فَرْقَهُ وَإِنْ زَوْيَ عَنْهُ كُلُّ شَيْءٍ فِيهَا لَمْ يَطْلُبْهُ قَالَ ثُمَّ يَبْكِي وَ يَقُولُ
هَذَا وَ اللَّهُ الْكَرِيمُ هَذَا وَ اللَّهُ الْكَرِيمُ . (۱)

یعنی مومن ہر حال میں تنگی اور فیاض دل ہوتا ہے، اسے یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ اس کا کوئی ہمسایہ کسی طور ستایا جائے، اور اس کے احباب و اقرباء میں کوئی مفلس و کنگال ہو۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ روتے ہوئے فرماتے: قسم بخدا! ان سب کے باوجود بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کا دھنی ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی دولت اس کے پاس نہیں ہوتی، اگر تم اس سے دین کے معاملہ میں کوئی سمجھوتہ کرنا چاہو تو وہ کبھی اس کے لیے راضی نہ ہوگا، ہاں! مال و متاع کے سلسلے میں وہ دھوکا کھا جائے تو کھا جائے؛ ورنہ دین کے معاملہ میں وہ بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ایک ذرا نہیں گردانتا، نہ ہی جو دوستخواحت میں بخل کو ہاتھ مارنے دیتا ہے۔ اس کا آئینہ دل (خشیت مولا سے) پارہ پارہ ہوتا ہے، وہ ایک جدا گانہ قسم کی اداسی وغیری میں گھرا ہوتا ہے، حزن و غم میں وہ کھویا کھویا سارہ تھتا ہے، دنیا کی موجودت سے اسے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اگر دنیا اسے بھانا چاہے تو وہ جھٹک کر اس سے الگ ہو جائے، اور اگر دنیا کی ساری چیزیں اس سے جاتی رہیں کبھی اس کے لیے دست طلب دراز نہ کرے، پھر روتے ہوئے فرماتے: قسم بخدا! یہ ہوتی ہے کرم و دستخواحت، اور ایسے ہوتے ہیں کریم وحی!

(۱) موسوعۃ اطراف الحدیث: ۱/۹۸۸۷۰ حديث: ۹۷۳۰..... موسوعۃ التحریج: ۱/۱۹۲۰ حديث: ۱۰۱۲۰۳۔

☆ یا انسان اگرچہ خود ایک بہت بڑا راز ہے؛ لیکن اس کو راز دریافت کرنے کا شوق ہے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء نے فرمایا :

من يزدد علماً يزدد وجعاً و قال ما أخاف على نفسِي أن يقال
لي ما علمت و لكن أخاف أن يقال لي ماذا عملت . (۱)

یعنی جس کے پاس علم کی جتنی فراوانی ہوتی ہے، اس کے پاس درد و کمک اور رقت و شکستگی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ نیز آپ فرماتے: مجھے اپنی ذات پر اس چیز کا کبھی خوف نہیں رہا کہ لوگ کہیں کہ آپ کو علم نہیں مگر اس بات کا خوف مجھے ہمیشہ دامن گیر رہتا ہے کہ کہیں یہ نہ پوچھ لیا جاؤں کہ (اپنے علم پر) عمل کتنا کیا۔

حضرت مالک بن دینار کو یہ کہتے سنائیا :

أَقْسَمْ لَوْنَبَتْ لِلْمُنَافِقِينَ أَذْنَابَ مَا وَجَدَ الْمُؤْمِنُونَ أَرْضًا
يَمْشُونَ عَلَيْهَا . (۲)

یعنی میں قسم بخدا کہتا ہوں کہ اگر منافقین کو ذم اگ آتی (تو وہ حسد و نغض کے باعث اُسے کل روے زمین پر اس طرح پھیلا دیتے کہ) شاید اہل ایمان کو زمین پر چلنے کے لیے کہیں کوئی جگہ نہ ہوتی۔

آپ نے کسی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تقدیر الہی پر راضی رہتا کہ تجوہ کو عذاب حشر سے نجات مل سکے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

عَلَامَة حُبُّ اللَّهِ دَوَامُ ذَكْرِهِ لَأَنَّ مَنْ أَحَبَ شَيْءًا أَكْثَرَ ذَكْرَهُ . (۳)

(۱) موسوعۃ اطراق الحدیث: ۱/۳۱۹.....۲۷۵۳۹.....۲۸۲۱۹.....التبیر بـ الموضوع لـ حادیث: ۱/۲۹۳۷۸۔

(۲) الاباضۃ الکبریٰ لابن بطی: ۲/۳۲۰.....۲۷۳۸.....حدیث: ۱/۲۹۳۸۔

(۳) شعب الایمان تہجی: ۲/۲۷.....حدیث: ۱/۵۳۱۔

☆ خیال عادل نہ ہو تو عمل عادل نہیں ہو سکتا۔

یعنی اللہ تعالیٰ سے دعویٰ محبت کی ایک نشانی یہ ہے کہ دوام و تسلسل کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے؛ کیوں کہ جب کوئی کسی چیز کو چاہتا ہے تو فطری طور پر اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

ما تلذذ المتلذذون بممثل ذکر اللہ عزوجل . (۱)
یعنی لذت اندوز ہونے والے اللہ کے ذکر میں جو لذت و فرحت اور کیف و سرو محسوس کرتے ہیں وہ کسی اور چیز میں نہیں کرتے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

إنما الخير في الشباب . (۲)

یعنی عہد شباب، اکتساب خیر عمل کے لیے بہترین مانا گیا ہے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

الحكایات تحف الجنۃ . (۳)

یعنی (عبرت آموز) حکایتیں جنت کے تھنے ہیں۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

من لم يكن صادقاً فلا يعتن . (۴)

یعنی جس کی باتیں متنی بر صداقت نہ ہوں اس کا کسی بات میں اعتبار نہ کیا کرو۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا :

(۱) شعب الایمان نہجی: ۲۶۲ حدیث: ۷۲۳.....جامع العلوم والحكم: ۵۰/۱۳۔

(۲) الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع: ۲۶۷ حدیث: ۲۶۷۔

(۳) الجامع لأخلاق الراوی وآداب السامع: ۲۷۱ حدیث: ۱۷۰۸۔

(۴) حلیۃ الاولیاء: ۳۷۳۔

☆ جلوگ معاملات میں ٹھیک نہ ہوں ان کو پناشر کیک کارنہ بنا کیں بلکہ قریب بھی نہ پھکنے دیں۔

یا بنی، کیف تطاول علی الناس ما یوعدون وهم الی ما
یوعدون سر اعا یذہبون . (۱)

یعنی اے نورِ نظر! لوگ اپنے ساتھ ہوئے وعدے کوں طرح پس پشت ڈالے
اور بھولے میٹھے ہیں اور انھیں جس کا وعدہ دیا گیا ہے اس کی طرف جلدی کرتے
جار ہے ہیں (یعنی جو وعدہ ان سے کیا گیا ہے وہ ہونا ہے)۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

نیة المؤمن أبلغ من عمله . (۲)

یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ موثر اور بہتر ہوتی ہے۔

حضرت مالک بن دینار سے پوچھا گیا: اے ابو حیان! یہ بتائیں کہ حجاج بن یوسف
حالت کفر میں مارا گیا تھا؟، آپ نے فرمایا: کاش! ہم اس وقت موجود نہ رہے ہوتے، اور
کاش جس نے قتل کیا ہے اس کی نجات ہو جاتی!۔ (۳)

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت جابر بن زید میرے گھر
تشریف لائے، چنانچہ جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے چاہا کہ انھیں امامت کے لیے آگے
بڑھاؤ! مگر انھوں نے فرمایا:

ثلاث ربهم أحق بهن، رب البيت أحق بالإمامنة في بيته، ورب

الفراش أحق بتصدر فراشه، ورب الدابة أحق بتصدر دابته . (۴)

یعنی تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا مالک دوسروں کی بہ نسبت ان کا زیادہ مستحق
ہوتا ہے۔

(۱) الرہد الکبیر بہیقی: ۱۷۲ حدیث: ۵۰۹۔

(۲) الرہد لاہم بن حنبل: ۳۵۸/۳ حدیث: ۱۹۰۵۔

(۳) انساب الاشراف: ۲/۳: ۳۰۲۔

(۴) حلیۃ الاولیاء: ۱/۳۸۹۔

☆ اپنے اچھے وقت میں اگر آپ کسی کی مدد نہ کریں گے تو برے وقت میں کون آپ کی مدد کرے گا!

(۱) صاحب خانہ اپنے گھر میں امامت کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ (۲)
 مالک فراش کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ بیچ بستر پر آرام کرے۔ (۳) اور سواری والا
 دوسروں کی نسبت آگے بیٹھنے کا زیادہ مستحق ہے۔
 حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

من فرح ب مدح الباطل فقد استمكنا الشيطان من دخول في قلبه. (۱)
 یعنی جو اپنی بے جا تعریف پر خوش ہوا، تو گویا اس نے شیطان کو اپنے دروازہ
 دل کی چابی تھا دی۔

حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ابرا و آخر امامت تین چیز کی وصیت
 کر گئے ہیں :

بسجن اللسان، و كثرة الاستغفار، و العزلة . (۲)
 یعنی زبان کو قابو میں رکھنا، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا اور عزلت نہیں
 اختیار کرنا۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

مثل المؤمن مثل المؤذنة، أينما ذهبت فحسنتها معها . (۳)
 یعنی مومن کی مثال موتنی کی سی ہوتی ہے کہ وہ جہاں جہاں جاتی ہے اس کی
 درخشانی و تابانی بھی ساتھ ساتھ جاتی ہے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو بیماری سے بچنے
 کے لیے کھانا تو کم کھاتا ہے مگر جہنم سے بچنے کے لیے گناہ کم نہیں کرتا!۔ (۴)

حضرت مالک بن دینار نے فرمایا :

(۱) حلیۃ الاولیاء: ۹۳/۳۔

(۲) صفة الصفوة: ۱۰/۳۷۸۔

(۳) ریج البارار: ۱/۱۲۹۔

(۴) ریج البارار: ۱/۳۱۵۔

☆ نگاہ کا عدل بڑا قوی ہے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی بھی اپنی بیٹی نظر آئے۔

من عرف نفسه لم يضره ما قال الناس فيه . (۱)
 یعنی جسے اپنی ذات کی معرفت نصیب ہو جائے (اور اپنی حیثیت کا علم ہو جائے)
 پھر اسے لوگوں کے کہنے سننے کی کچھ پرواہیں ہوتی۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا فيها - يعني مجالس الذكر . (۲)
 یعنی جب کبھی تمہیں باغاتِ جنت (مجالسِ ذکر) نظر آئیں تو ان میں سے کچھ
 لے لیا کرو۔

حضرت مالک بن دینار نے فرمایا :

صم عن الدنيا تفطر بالآخرة . (۳)
 یعنی دنیا سے روزہ رکھ لے اور آخرت سے افطار کر لینا۔

حضرت مالک بن دینار حمد اللہ فرماتے ہیں :

لو كلف الناس الصحف لأقلوا الكلام . (۴)
 یعنی اگر لوگوں کو (اسی دنیا میں) نامہ اعمال اُن کے ہاتھوں میں پکڑا دیا جاتا تو
 وہ یقیناً باقی میں کم کرتے (تاکہ کم سے کم گناہ ہو)۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں :

المنافقون في المساجد كالعصافير في القفص . (۵)
 یعنی منافق مسجد میں ایسے ہی (کوفت محسوس کرتے) ہیں جس طرح گوریا
 پنجھرے کے اندر۔

(۱) العقد الفريد: ۲۶۰۔

(۲) الاعجاز والايجاز: ۲۱/۱۔

(۳) الاعجاز والايجاز: ۲۱/۱۔

(۴) الصوت ابن ابي الدنيا: ۵۰۵ حدیث: ۳۸.....المجالس وجواہ العلم: ۱/۸۱۔

(۵) فہیم التدقیر: ۱۱۲/۲۔

☆ کسی کی اتفاقی خطا سے اس کے نام عمر کے احانتات فراموش نہ کر دیں۔

ا ربیعین مالک بن دینار

جمع و تدوین قرآن کے بعد احادیث نبویہ کے حفظ و ضبط پر جن اسباب و عوامل نے صحابہ و تابعین کو آمادہ کیا ان میں اُن بشاراتِ مصطفوی کا بھی ایک خاص مقام رہا ہے جن کی وجہ سے علماء اُمت کے لیے چنستانِ احادیث کے گل پاروں اور بحر آثار کے قطروں کو محفوظ کرنا ایک اہم علمی و نظیفہ اور دینی خدمت بن گیا۔ مثلاً :

نصر اللہ عبداً سمع مقالتی فحفظها و وعاها وأداتها.....
نصر اللہ امرأً سمع منا شيئاً بلغه كما سمع..... من حفظ على
امتى اربعين حديثاً من امر دينها بعثه اللہ يوم القيمة في زمرة
الفقهاء والعلماء .

یعنی اللہ اس شخص کو شاد و آباد رکھے جو میری حدیث سن کر اسے یاد کر لے، اور پھر پوری ذمہ داری سے اسے دوسروں تک پہنچا دے۔۔۔ اللہ اس بندے کا بھلا فرمائے جو ہم سے کچھ سنے اور بعینہ اسے آگے لوگوں تک پہنچا دے۔۔۔ میرا جو کوئی امتی چالیس دینی حدیثیں یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر ارباب علم و فقهہ کے ساتھ فرمائے گا۔

مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس حدیثوں کے حفظ و نقل پر جو عظیم بشارت دی ہے اس کے پیش نظر خیر القرون سے اب تک فضیلت و ثواب کی تحصیل اور سعادت دارین کے حصول کی خاطر علماء اُمت نے نہ صرف اربیعین احادیث کا تحفظ کیا؛ بلکہ زبانی یا تحریری طریقہ سے انھیں دوسروں تک پہنچانے کا بھی خوبصورت اہتمام فرمایا ہے۔ فن حدیث کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ کتب احادیث کے اقسام میں محدثین نے ایک خاص قسم

☆ انسانوں سے محبت کریں، بھی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔

اربعینات بھی ذکر کی ہیں۔ ان اربعینات کا تعارف پیش کرنے سے قبل مذکورہ بالا حدیث اربعین کے کچھ متعلقات ذکر کرنا مناسب اور مفید ہوگا۔

یہ حدیث امام مجی الدین ابو زکر یا مجی بن شرف نووی رحمہ اللہ کے بقول کئی صحابہ کرام حضرت علی مرتفعی، عبد اللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، انس بن مالک، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہم سے مختلف الفاظ کے ساتھ کئی طرق سے مروی ہے۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت میں: کنت له یوم القيامۃ شفیعاً وشهیداً ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں: قیل له ادخل الجنة من ای ابوباب الجنة شئت آیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں: کتب فی زمرة العلماء و حشر فی زمرة الشهداء متقول ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں: ادخلته یوم القيامۃ فی شفاعتی وارد ہے۔ نیز بعض روایت میں: اربعین حدیثا من السنة، یا من سنتی کا لفظ آیا ہے۔ اور بعض میں: من حفظ علی امتی کی بجائے من حمل مِن امتی کا لفظ پایا جاتا ہے۔ (جامع الصغیر، امام سیوطی، الاربعین نووی)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تیرہ صحابہ کرام سے وارد ہوئی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب علل میں ان تمام کی تخریج کی ہے، اور امام منذری نے اس حدیث پر مستقل رسالہ تصنیف کیا ہے اور میں نے امام میں اس کی تلخیص کی ہے، ایک جزء میں حدیث کے تمام طرق کو جمع کیا ہے۔ (ذیل القدر، ج: ۲، ص: ۱۵۵)

علامہ عبدالرؤف مناوی صاحب فیض القدری حدیث کے الفاظ مختلفہ کے مابین جمع و تقطیق یا حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اربعین کے حفظ کرنے والے قیامت کے دن مختلف المراتب ہوں گے: بعضوں کا حشر زمرة شہدا میں ہوگا اور بعضوں کو علماء میں۔ جب کہ

☆ ایک مرتبہ ہار کر پیٹھے جانے والا عمر بھر ہارتا رہتا ہے۔

بعض بحیثیت فقیہہ و عالم اٹھائے جائیں گے؛ گرچہ وہ دنیا میں ایسے نہیں تھے۔ (شرح اربعین
لابن دقل العید)

حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ حدیث ”من حفظ علیٰ امتی“ کے تحت رقم طراز ہیں: ”علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے مراد و مقصود لوگوں تک چالیس احادیث کا پہنچانا ہے۔ چاہے وہ اسے یاد نہ بھی ہوں اور ان کا معنی بھی اسے معلوم نہ ہو۔ (اخذ المعمات، ۱/۱۸۶)

نیز مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں: ”اس حدیث کے بہت سے پہلو ہیں؛ چالیس حدیثیں یاد کر کے مسلمانوں کو سنانا، اور روایتیں سن کر کتابی شکل میں جمع کرنا سب ہی اس میں داخل ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو کسی طرح دینی مسائل کی چالیس حدیثیں میری امت تک پہنچادے تو قیامت میں اس کا حشر علماء دین کے زمرے میں ہو گا اور میں اس کی خصوصی شفاعت اور اس کے ایمان و تقویٰ کی خصوصی گواہی دوں گا؛ ورنہ عمومی شفاعت اور گواہی تو ہر مسلمان کو نصیب ہو گی۔ اسی حدیث کی بنابر قریب اکثر محدثین نے جہاں حدیثوں کے دفتر لکھے، وہاں علیحدہ چھل حدیث بھی جمع فرمائیں۔ (مرآۃ الناجی، ۱/۲۲۱)

فقیہ ابواللیث سرقندی نے بستان العارفین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضور اکرم ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ چالیس حدیثوں کو اگر کوئی آزبر (حفظ) کر لے تو یہ اس کے حق میں چالیس ہزار درهم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور بعض روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حدیث کے بد لے قیامت کے دن اسے نور عطا فرمائے گا۔ (بستان العارفین: ۱۰۶)

عمل بالاربعین کی لطیف صورت : علامہ مناوی فرماتے ہیں کہ اربعین کا پہلا عدد ربع عشر ہے پس جس طرح حدیث زکوٰۃ ربع عشر بقیہ مال کی تطبیق پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح ربع عشر پر عمل بقیہ احادیث کو غیر معمول بہا ہونے سے خارج کر دیتا ہے۔ چنانچہ دشراحتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے اصحاب حدیث! ہر چالیس میں

☆ اپنے نقش کے لیے دوسروں کا نقصان نہ چاہا کریں۔

سے ایک حدیث پر عمل کرو۔ (شرح اربعین لابن دقیق العید)

امام نووی علیہ الرحمہ کی شہادت کے مطابق سب سے پہلے اس سلسلہ خیر میں حضرت عبداللہ بن مبارک نے حصہ ڈالا، پھر عالم ربانی محمد بن اسلم طوسی نے، اور اس کے بعد حسن بن سفیان نسائی نے۔ اور پھر آگے چل کر امام ابو بکر آجری، ابو بکر اصفہانی، دارقطنی، حاکم، ابو نعیم اور ابو عبد الرحمن سلمی وغیرہم متقدمین و متاخرین کی بڑی تعداد نے اس سلسلہ میں گراماں مایہ خدمات انجام دیں؛ تاہم ہر ایک کے أغراض و مقاصد مختلف اور طرزِ انتخاب جدا گانہ ہے۔

کسی نے اصولی دین کے مضمون کو بنیاد بنا�ا..... کسی نے فروعی مسائل سے تعرض کیا۔ کسی نے جہاد میں حصہ لیا تو کسی نے زہد و روع کو موضوع بخشن بنیاد..... کسی نے آداب زندگی کو پیش نظر کھا..... بعض نے اختصار و ایجاز کا طریق اختیار کیا تو بعض نے جو ام الکلام کو ظاہر و روشن کیا..... بعض نے صحیت احادیث کا التزام کیا تو بعض نے حسن و ضعیف روایت کو بھی جگہ دی؛ حتیٰ کہ بعض نے صرف اس کا اہتمام کیا کہ احادیث طعن و قدح سے سالم و محفوظ ہوں خواہ کسی بھی مضمون سے متعلق ہوں۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی؛ بلکہ بعضوں نے جدت طرازی، غربات پسندی اور تنوع و تفنن کا بھی ثبوت دیا ہے جس سے پڑھنے والوں کو علمی بالیدگی، ڈھنی نشاط اور قلمی انشراح ہونا ظاہر ہے؛ مقصود بس اتنا ہے کہ سنت پر عمل کا داعیہ پیدا ہو؛ الغرض! جس نے بھی امت کی نفع رسانی کے لیے چالیس احادیث ان تک پہنچائی اور خود بھی دین پر قائم اور عمل پیارہا، وہ—ان شاء اللہ۔ اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔

صاحب کشف الظیون علامہ مصطفیٰ بن عبد اللہ معروف بکاتب حلی متوفی ۱۰۶۷ھ نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے اپنے زمانہ تک کے مشاہیر علماء میں سے تقریباً نوے (۹۰) سے زائد اربعینات کا ذکر کیا ہے، ان میں سے یہاں چند کا تعارف ان کے مختلف الجہت موضوع کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

☆ اربعین ابن المبارک (۱۸۱ھ): امام نووی فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق یہ

☆ لڑائی جگہوں میں جب تک فریقین کی نہ سن لیں، اچھا یا برا حکم نہ لگائیں۔

سب سے پہلی اربعین ہے جو اس سلسلے میں تصنیف کی گئی۔

☆ اربعین یمانیہ: محمد بن عبد الحمید قرشی (م ۳۱۷ھ) کی ہے جو یمن کے فضائل و مناقب پر مشتمل ہے۔

☆ اربعین بیہقی: امام ابو بکر شمس الدین احمد بن حسین شافعی بیہقی (م ۴۵۸ھ) کی تصنیف ہے، اس میں سوا حادیث اخلاق کو ۲۰۰ ابواب پر مرتب کیا گیا ہے۔

☆ اربعین طائیہ: ابوالفتوح محمد بن محمد بن علی طائی ہمدانی (م ۵۵۵ھ) کی ہے۔ اس میں مصنف نے اپنی مسموعات میں سے چالیس حدیثیں چالیس شیوخ سے املا کرائی ہیں، بایں طور کہ ہر حدیث الگ صحابی سے ہے، پھر ہر صحابی کی سوانح حیات ان کے فضائل اور ہر حدیث کے فوائد مشتمله، الفاظ غریبہ کی تشریح اور پھر چند مسخن جملے ذکر کیے ہیں۔ اس کتاب کا نام اربعین فی ارشاد السائرین الی منازل اليقین، رکھا۔ بقول علامہ سمعانی رحمۃ اللہ علیہ: یہ کتاب بہت خوب، اور اپنے موضوع پر عمده تصنیف ہے، اس کا تعلق بیک وقت علوم حدیث، فقہ، ادب اور وعظ سے ہے۔

☆ الاربعین فی اصول الدین: ابو حامد محمد بن محمد غزالی (م ۵۰۵ھ) کی ہے جو تصوف کے مسائل پر مشتمل ہے۔

☆ اربعینیات ابن عساکر: ابو القاسم علی بن حسن دمشقی شافعی (م ۱۷۵ھ) نے کئی اربعین لکھی ہیں: (۱) اربعین طوال، (۲) اربعین فی الابدال العوال، (۳) اربعین فی الاجتہاد فی اقامۃ الحدود، (۴) اربعین بلدانی۔

اربعین طوال میں چالیس ایسی طویل حدیثیں جمع کی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتی اور صحابہ کرام کے فضائل کو بھی بتلاتی ہیں۔ ساتھ ہی اس میں ہر حدیث کی صحت و سقم کو بھی ظاہر کیا ہے۔

☆ اگر پتا چل جائے کہ رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق کی تلاش نہ کریں، اللہ کی تلاش کریں۔

☆ اربعین بلدانیہ: ابو طاہر احمد بن محمد سلفی اصیہانی (م ۶۵۷ھ) نے چالیس حدیثیں چالیس شیوخ سے چالیس شہروں میں جمع کی ہیں۔ ان عساکرنے ان کی اتباع میں ایسی بھی ایک اربعین لکھی اور اس پر یہ اضافہ کیا کہ ان حدیثوں کو چالیس صحابہ کرام سے چالیس بابوں میں ذکر کیا؛ چونکہ ہر حدیث کے مالہ و ماعلیٰ پر کلام بھی کیا ہے اس وجہ سے ہر باب گویا مستقل کتابچہ بن گیا ہے۔

علاوه ازیں اور بھی بہت سے محدثین نے اربعین بلدانیہ لکھی ہیں۔

☆ الاربعین فی فضائل عثمان رضی اللہ عنہ، الاربعین فی فضائل علی رضی اللہ عنہ: یہ دونوں ابوالخیر رضی الدین القزوینی شافعی (م ۵۸۹ھ) کی ہیں۔

☆ اربعین فی اصول الدین: امام فخر الدین محمد بن عمر رازی (م ۲۰۶ھ) نے اس کو اپنے فرزند محمد کے لیے تالیف کیا تھا جسے علم کلام کے چالیس مسائل پر مرتب کیا ہے۔

☆ الاربعین: موفق الدین عبداللطیف بن یوسف الحکیم فیلسوف بغدادی (م ۶۲۹ھ) نے طب نبوی پر جمع کیا ہے۔

☆ الاربعین: محمد بن احمد یمنی بطال (م ۶۳۰ھ) نے اس میں صبح و شام کے آذکار ذکر کیے ہیں۔

☆ اربعین ابن العربي: مجی الدین محمد بن علی (م ۶۳۸ھ) نے اسے کہہ میں جمع کیا اس شرط کے ساتھ کہ اس کی سند اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے (یعنی بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پھر اس کے بعد اور چالیس روایتیں اللہ تعالیٰ سے نقل کی ہیں اس طرح کہ اس کی سند بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کے اللہ تک پہنچتی ہے۔

☆ الاربعین الختارة فی فضل الحج و الزیارتہ: حافظ جمال الدین اندری (م ۶۶۳ھ) کی ہے۔

☆ اربعین نووی: ابو ذکر یامیحی الدین بیکی بن شرف نووی شافعی (م ۶۷۶ھ) نے تالیف

☆ شروع میں مذکور کر لیتا اخیر میں عذر تراشئے سے بدرجہ اہمتر ہے۔

کی ہے، جس میں امام نووی نے متفقہ مین علام کے بکھرے مقاصد کو سمجھا فرمادیا ہے یعنی ایسی حدیثوں کا انتخاب فرمایا جو دین و شریعت کی بنیاد و اصول بھی ہیں اور اعمال و اخلاق اور تقویٰ و طہارت کی اساس بھی، اور پھر کمال یہ کہ صحت کا بھرپور التزام فرمایا ہے بلکہ اکثر احادیث صحیحین سے ماخوذ ہیں۔ اخیر میں اربعین پر دو کا اضافہ کر کے غالباً ان عدد الاربعین للتکنیر لا للتحدید، کی طرف اشارہ کر دیا۔ اور اس اربعین مالک بن دینار میں بھی ہم نے اخیر میں دو چند حدیثوں کا اضافہ کر کے اسی طریقہ پر عمل کیا ہے۔

چونکہ یہ اربعین جامع المقاصد تھی اس لیے بعد کے علماء غول نے اس کی تشریح و توضیح کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی ہے۔ علامہ جلیلی نے تقریباً ۲۰ رشار جیمن کا ذکر کیا ہے، جن میں ایک علامہ ابن حجر عسقلانی بھی ہیں جنھوں نے احادیث کی تخریج کی ہے۔ اس کی ایک عمدہ شرح علامہ ابن دیقیق العید کی بھی ہے، مگر کشف الظنوں میں اس کا ذکر نہیں ہے۔

☆ اربعین ابن جزری: شمس الدین محمد بن محمد جزری شافعی (م ۸۳۸ھ) نے اس میں ایسی چالیس حدیثیں ذکر کی ہیں جو واضح، فصح اور اوجز ہیں۔

☆ اربعین عالیہ: حافظ احمد بن حجر عسقلانی شافعی (م ۸۵۲ھ) کی ہے اس میں انھوں نے صحیحین میں سے ایسی چالیس حدیثیں ذکر کی ہیں جن میں مسلم کی سند بخاری کی سند سے عالی ہے، اس کے علاوہ اربعین تبایہ اور اربعین نووی کی تخریج وغیرہ بھی ہے۔

☆ اربعینات سیوطی: علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی (م ۹۱۱ھ) نے کئی اربعین تالیف کی ہیں: ایک فضائل جہاد میں، ایک رفع الیدین فی الدعاء میں۔ ایک امام مالک کی روایت سے۔ ایک روایت تبایہ میں۔

☆ اربعین عدیہ: شہاب الدین احمد بن حجر عسقلانی (م ۹۷۳ھ) نے اپنی سند سے ایسی

☆ مغربی تہذیب اپنے مطلقی انجام کو پہنچ گئی ہے، ان کی کوئی لذت ایسی نہیں رہ گئی جو گناہ نہ ہو۔

چالیس احادیث جمع کی ہیں جو عدل و عادل سے متعلق ہیں۔

☆ الاربعین عشریات الاسناد: قاضی جمال الدین ابراہیم بن علی قلقشیدی شافعی (۹۶۰ھ) نے تصنیف کی ہے، اس میں انہوں نے ایسی چالیس روایات املأ کرائی ہیں جو سند کے اعتبار سے عالی ہیں اگرچہ حسن کے درجہ تک نہیں پہنچی ہیں۔

☆ اربعین طاش کبری زادہ: احمد بن مصطفیٰ رومی (۹۶۸ھ) نے اس میں ایسی چالیس حدیثیں ذکر کی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور مزاح و دل بستگی کے صادر ہوئی ہیں۔

☆ اربعین خویشاوند: ابوسعید احمد بن طوی (متوفی....) کی ہے اس میں فقرہ اور صالحین کے مناقب میں احادیث بیان کی ہیں۔

☆ اربعین قدسیہ: حسین بن احمد بن محمد ابن ییری (۱۰۹۹ھ) نے ایسی احادیث کا انتخاب کیا ہے جن کا تعلق اسرار عرفانی اور علوم لدنی سے ہے، پھر صوفیا کے مذاق کے مطابق اس کی شرح کی ہے اور ساتھ ساتھ چالیس حدیث قدسی مع شرح کے اضافہ کیا ہے اس کتاب کا اصل نام 'مفہوم الکنووز و مصباح الرمز' ہے۔

☆ الاربعین فی فضائل عباس رضی اللہ عنہ: ابوالقاسم حمزہ بن یوسف سہی جرجانی (۷۴۷ھ) کی ہے۔

☆ الاربعین الالہیہ: حافظ ابوسعید خلیل بن کیکلہ (۷۲۱ھ) نے کئی اربعینات تالیف کی ہیں: ایک یہی جو تین جزوں میں ہے۔ دوسری الاربعین فی اعمال الحتقین ۳۶ راجزاً میں اور الاربعین المعنۃ ۱۲ راجزاً میں ہے۔

☆ اربعین: شاہ ولی اللہ محدث دہلوی (۱۱۷۲ھ) نے ایسی چالیس احادیث کا انتخاب فرمایا ہے جو قلیل المبین و کثیر المعانی یعنی جو اجمع علمکم کے قبل سے ہیں۔

☆ جو کسی مقدمہ کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔

☆ مختصر المیزان: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی (م ۱۳۳۰ھ) نے اس میں چالیس حدیثیں سوادِ اعظم کی پیروی سے متعلق درج کی ہیں، نیز چالیس حدیثیں اس تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے طریقے کی ایتاء کرنے والا فرقہ ہی 'فرقہ ناجیہ' ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کئی اربعینات مرتب فرمائی ہیں؛ جس میں آپ کا علمی رنگ بالکل جدا گانہ ہے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں: ائمہ و صحابے رنگ کی (اربعینات) چهل حدیثیں لکھی ہیں، اور ہم بتوفیقہ تعالیٰ غیر خدا کو سجدہ حرام ہونے کی چهل حدیث لکھتے ہیں۔ کتاب کا تاریخی نام "الزبدۃ الزکریۃ فی تحریم سبود النجیۃ" (۱۳۳۷ھ) ہے۔ یوں ہی ایک سوال کے جواب میں آپ نے "اسماع الاربعین فی شفاعة سید الحججوین" تصنیف فرمائی۔

المختصر! امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی اربعین سے لے کر اب تک کے ذخیرہ اربعینات میں سے مشتمل نمونہ از خوارے صرف چند کا تعارف پیش کیا گیا ہے استیحاب مقصود نہیں۔

اس تفصیل سے آپ پر عیاں ہو گیا ہوگا کہ اربعین نویں، علوم حدیث کی علمی دلچسپیوں کا ایک مستقل باب رہا ہے۔ تذکرہ نگاروں کی روایات اور مورخین حدیث کی تفصیلات کے مطابق حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ پہلے محدث ہیں جنہوں نے اس فن پر پہلی اربعین مرتب کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بعد ازاں علم حدیث، حفاظت حدیث، اور حفظ حدیث کی علمی اور عملی ترغیبات نے اربعین نویں کا ایک مستقل شعبہ حدیث بنادیا۔

اس ضمن میں کی جانے والی کوششوں کے نتیجے میں اربعین کے سینکڑوں مجموعے اصول دین، عبادات، آداب زندگی، زہد و تقویٰ اور خطبات و جہاد جیسے موضوعات پر مرتب ہوتے رہے۔ ان میں سے ستر مجموعوں کا تذکرہ صرف 'کشف الظنون' میں ملتا ہے۔

☆ جو اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں کہ اس میں اخوتِ اسلامی کی ایک نشانی ہے۔

بر صغیر میں بھی اربعین نویں کا ذوق رہا اور اس ضمن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لے کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی تک بہت سے مجموعے ہمارے سامنے ہیں۔ جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ تاہم اربعینات کی فہرست میں ”اربعین نوی“ سب سے ممتاز، مع oltre اور نمایاں کام ہے۔

مذکورہ بالا حدیث اربعین کے حفظ و نقل کی بشارت کے پیش نظر داعیہ پیدا ہوا کہ ناجیز بھی چالیس حدیثوں کو جمع کر کے لوگوں تک پہنچائے؛ چنانچہ اللہ جل جمدہ نے ایک خاص ندرت اور لطافت کے ساتھ پہلے بچوں کی چالیس حدیثیں مرتب کرنے کی سعادت بخشی جو قارئین سے خراج تحسین وصول کر رہی ہے۔ اور پھر آب جب کہ حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ کے آقوال و واقعات آپ تک پہنچ رہے ہیں تو تمبا ہوئی کہ کاش! ان سے مروی احادیث کا ایک مجموعہ اربعین بھی مرتب ہو جاتا؛ تو بتوفیق ایزدی وہ کام بھی پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ فلله الحمد والمنة۔

آنندہ صفحات میں آپ حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمۃ والرضوان سے مروی احادیث نبویہ دل کی آنکھوں سے پڑھیں اور خود کو عمل کی شاہراہ پر لگا دیں۔ اللہ ہمیں توفیق خیر سے نوازے، اور ہر حال میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔

☆ اس آدمی کا کوئی قصور نہیں جو صحیح قول نہیں کرتا، غلطی اس کی ہے جو غیر مناسب طریقے سے صحیح کرتا ہے۔

حضرت مالک بن دینار سے مروی احادیث

[[حضرت مالک بن دینار حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

أتیت لیلۃ أسری بی إلی السماء فإذا أنا برجال تقرض ألسنتهم
و شفاههم بمقاریض، فقلت: من هؤلاء يا جبریل؟ قال: هؤلاء
الخطباء من أمتك .

یعنی شب مرارج جس وقت میں آسمان پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی
قیچیوں سے زبانیں اور ہونٹ کترے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا: جبریل! یہ
کون لوگ ہیں؟ فرمایا: یہ آپ کی امت کے خطباء و مقررین ہیں۔
اور دوسرا حدیث میں اتنا اضافہ ہے :

الذین يقولون ولا يفعلون ويقرءون كتاب الله ولا يعملون

بہ . (۱)

یعنی (یہ آپ کی امت کے وہ خطباء و مقررین ہیں) جو کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ
تھے۔ اللہ کی کتاب تو پڑھا کرتے تھے مگر اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔

(۱) حلیۃ الاولیاء: ۳۸۸ / ۱ مجمع اوسط طبرانی: ۳۹۸ / ۲ تفسیر ابن الجمیل: ۲۶۲ / ۲ تفسیر ابن الجمیل: ۲۹۲ / ۲ شعب الایمان: ۳۶۸ مسن ابویعلی موصی: ۱۹۲ / ۹ حدیث: ۱۰۵ صحیح ابن حبان: ۱۰۲ / ۱ مورد الظہر: ۵۳ اقتداء العلم اعمل: ۱۱۲ / ۱ حدیث: ۱۰۷ الصحاف لابن الجوزی: ۱ / ۳۹۱ موسوعۃ اطراف الحديث: ۱ / ۲۸۲ التوبیب الموضوی للآحادیث: ۱ / ۳۹۲ موسوعۃ التخریج: ۱ / ۱۲۶ / ۱ حدیث: ۱۵۷ / ۷

☆ جس چیز کو ہم باعثِ عزت سمجھ رہے ہیں، اس کی موجودگی میں لوگ ذلیل ہیں۔

حضرت مالک بن دینار حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

خشیۃ اللہ رأس کل حکمة، و الورع سید العمل و من لم يكن
له ورع يحجزه عن معصية الله عزوجل إذا خلا بها لم يعبأ الله
بسائر عمله شيئا . (۱)

یعنی بہترین حکمت اور دانائی یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف و خشیت ہر وقت موجود رہے۔ اور پر ہیزگاری، ہر عمل پر بھاری ہے۔ اور جس کے پاس ایسا تقویٰ نہ ہو جو اس کو اللہ کی نافرمانی سے اس وقت بچائے جب وہ تہائی میں کوئی گناہ کرے تو اللہ کے نزدیک تمام ہی عمل ناقابل اعتناء ہیں۔

حضرت مالک بن دینار حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

أخبرني جبريل عن الله تعالى أن الله عزوجل يقول: و عزتي وجلالي و وحدانيتي و فاقه خلقي إلي و استواري على عروشي وارتفاع مكانى، إني لاستحي من عبدي وأمتي يش bian في الإسلام ثم أ Gund بهما .

یعنی حضرت جبریل فرمادیں ایسی نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھے اپنی عزت و جلال، اپنی کیتنائی، میری مخلوق کی میری طرف احتیاج، عرش پر اپنے استوار اپنی رفت شان کی قسم! دامن اسلام میں رہتے ہوئے بڑھاپے

(۱) حلیۃ الاولیاء: ۳۸۸/۱..... مندرجہ شہاب قضاوی: ۲۸/۱: ۲۱..... التوبیب الموضوع للاحادیث: ۲۱۵۱۳/۱..... موسوعۃ الحجرنخ: ۱۲۶۳/۱: ۳۱۲۳..... ۱۲۶۳/۱: حدیث

☆ زندگی کے تاریک پہلوؤں سے پہلے اس کے روشن پہلوؤں پر نظر ڈالیں آپ اچھی زندگی گزاریں گے۔

کی منزل تک پہنچ جانے والے اپنے بندوں کو عذاب دیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔

حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اتنا فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم ان نبوت بھیگ گئیں۔ میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! نگاہِ رسالت میں چھلتے ہوئے یہ آنسو کیسے؟ تو آپ نے فرمایا:

بکیت لمن یستحی اللہ منه و لا یستحی من اللہ تعالیٰ۔ (۱)

مجھے صرف اس وجہ سے رونا آرہا ہے کہ اللہ کو انھیں عذاب دینے سے تو حیا آتی ہے؛
مگر انھیں گناہ کرتے وقت اللہ سے ایک ذرا شرم نہیں آتی!

حضرت مالک بن دینار حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لیؤیدن اللہ تعالیٰ هذَا الدِّينَ بِقُومٍ لَا خِلَاقَ لَهُمْ۔ (۲)

یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کو ان لوگوں سے تقویت بخشنے گا جن کا (آخرت میں) کچھ حصہ نہیں۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا: اے ابو سعید! یہ روایت آپ کو کہاں سے ملی ہے تو فرمانے لگے کہ ایک دن حضرت انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اسے نقل فرمार ہے تھے۔

حضرت مالک بن دینار بکو ال محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

(۱) حلیۃ الاولیاء: ۳۸۸ / ۱..... البرہان الكبير تحقیق: ۲۳۸ / ۲ / ۲۳۳: حدیث۔

(۲) حلیۃ الاولیاء: ۳۸۸ / ۱..... امام ابن بشران: ۱ / ۲۵۲ / ۱..... اکنی والاساء دولابی: ۲ / ۲۳۸: حدیث۔ علی الترمذی الكبير: ۲ / ۲۳۲ / ۲..... حدیث: ۲۸۲:۔

☆ ہوئیں پہاڑوں کو نہیں ہلاکتیں؛ مگر ریتوں کو ادھر سے ادھر ضرور بھیگتی رہتی ہیں۔

تحت کل شعرہ جَنَابَةٍ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ . (۱)
یعنی ناپاکی بالوں تلے چھپی ہوتی ہے؛ لہذا بالوں کو اچھی طرح دھلو اور جلد و
کو صاف کرو۔

حضرت مالک بن دینار حضرت حسن سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے فرمایا :

حضرت مالک بن دینار بحوالہ قاسم بن محمد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ
عنہا نے پوچھا: یا رسول اللہ! لوگ تو حج و عمرہ دونوں کی سعادتیں حاصل کر کے لوٹیں گے
تو کیا میں فقط ثواب حج ہی لے کر لوٹوں گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت عائشہ کو (اپنے بھائی) عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ مقام تعمیم^(*) بھیجا جہاں سے
آپ عمرہ کی نیت کر کے کجا وہ پر بیٹھ کر آئیں۔ (۲)

اس حدیث کو امام بخاری نے بھی اپنی کتاب میں حضرت مالک بن دینار کے حوالے
سے نقل فرمایا ہے۔

(۱) حلیۃ الاولیاء: ۳۸۸/۱..... سنن ابو داؤد: ۳۱۲/۱..... سنن ابن ماجہ: ۲۲۲/۲..... حدیث:
۵۸۹..... سنن کبریٰ تیہنی: ۱/۵۷..... تہذیب الآثار طبری: ۱/۵۷..... معرفۃ السنن و
الآثار: ۱/۲۵۵..... جزء ابن القطر نیف: ۱/۲۷..... حدیث ۱/۲۷..... فائدۃ تمام: ۳۰۳/۲.....
حدیث: ۸۰۳..... موسوعۃ اطراف الحدیث: ۱/۳۱۵۸..... حدیث ۱/۳۹۱۸..... التقویۃ الموضوعی
لہا حدیث: ۱۶۸۹..... موسوعۃ اختریع: ۱/۱۲۳۹..... حدیث: ۱/۹۳.....

(۲) صحیح البخاری: ۳۹۲/۵..... معرفۃ الصحابة لابی قیم اصحابی: ۱۰/۱۳۲..... حدیث: ۳۱۷/۸..... حلیۃ الاولیاء:
۳۸۸/۱.....

(*) آج کل یہ جگہ مسجد عائشہ کے نام سے مشہور ہے، اور عمرہ کا احرام یہیں سے باندھا جاتا ہے۔ حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس عمل سے امت آج تک مستفیض ہو رہی ہے۔ اللہ کل امت مسلمہ کی طرف
سے امام المومنین کو بہترین صلحہ عطا فرمائے۔

☆ لوگوں نے آپ کو دھوکا دیا جب کہا: 'سفید جھوٹ؟' کیوں کہ جھوٹ کا رنگ ہمیشہ سیاہ ہوتا ہے۔

﴿۷﴾ حضرت مالک بن دینار بحوالہ سالم بن عبد اللہ اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک یہودی سے گزر ہوا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مقصوں میں ملبوس تھے۔ یہودی نے عرض کیا: اے ابو القاسم! ان میں سے ایک مجھے پہنادیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں مقصوں میں سے بہتر والی اُتار کر اسے پہنادی۔

میں نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کو وہ دوسرا والی پہنادی چاہیے تھی؟ فرمایا: اے عمر! شاید تمہیں پتا نہیں کہ ہمارے دین حنفی میں بخل کا کوئی گز نہیں۔ اور میں نے اسے افضل قیص اس لیے پہنادی تاکہ اس کے باعث اسے قبولیت اسلام میں رغبت بھی ہو۔ (۱)

﴿۸﴾ حضرت مالک بن دینار بحوالہ عبد اللہ بن غالب حضرت ابوسعید خدری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

حصلتان لا تجتمعان في مؤمن سوء الخلق و البخل . (۲)
یعنی دو حصلتیں اور عادتیں کسی صاحب ایمان کے اندر اکٹھانہیں ہو سکتیں:
بداخلاقی اور کنحوی۔

(۱) حلیۃ الاولیاء: ۳۸۸..... دلائل الدینۃ تہذیب: ۳۱۷/۶ حدیث: ۲۳۶۲۔

(۲) حلیۃ الاولیاء: ۲۸۹/۱..... سنن ترمذی: ۷/۲۲۳ حدیث: ۱۸۸۵..... تہذیب الاتمار طبری: ۱۳۸/۱ حدیث: ۱۳۵..... مندرجہ اعلیٰ موصی: ۳۲۱/۳ حدیث: ۱۲۹۷..... مندرجہ بن حید: ۱۰۶/۳ حدیث: ۹۹۸..... مندرجہ شہاب قضاۓ: ۳۵۰/۲..... مندرجہ طیلی: ۲۲۶/۲ حدیث: ۲۳۱۰..... امامی: ۲۰۲/۲ حدیث: ۲۶۱..... الادب المفرد بخاری: ۱/۲۲۸ حدیث: ۲۸۹..... الاربعون الصغری: ۱/۱۳۳ حدیث: ۱۰۳..... الزہد لابن حنبل: ۳۲۲/۳ حدیث: ۱۳۹۶..... اکٹی والاساء دولابی: ۱۹/۶..... تظییم قدر الصلاۃ محمد بن فصر مروی: ۱۲/۲ حدیث: ۳۰۰..... حدیث عمر بن احمد لابن شاہین: ۲/۱ حدیث: ۵..... مساوی الاصلاق خاطی: ۱/۱۰ حدیث: ۸..... التوبیب الموضعی للز حادیث: ۱۳۰۳۲/۱..... موسوعۃ التخریج: ۱/۸۳۲ حدیث: ۲۰۲۳۔

☆ ”زنگی“ کچھ لا اور کچھ دو کا نام ہے؛ لیکن آپ کا دینا، آپ کے لیئے سے زیادہ ہونا چاہیے۔

حضرت مالک بن دینار بحوالہ خلاص بن عمر و حضرت ابو درداء سے روایت کرتے ہیں کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے :

أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَالِكُ الْمُلُوكِ قُلُوبُ
الْمُلُوكِ بِيَدِي وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أطَاعُونِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ
عَلَيْهِمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلْتُ قُلُوبَ
مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسُّخْطِ وَالنَّقْمَةِ فَسَامَوْهُمْ سَوْءَ الْعِذَابِ؛ فَلَا
تَشْغُلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ وَلَكُمْ اشْتَغْلُوا أَنفُسَكُمْ
بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيَّ أَكْفَافُكُمْ مَلُؤُكَمْ . (۱)

یعنی میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ بادشاہی میرے لیے ہے، اور
میں شہنشاہ ہوں۔ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔
بندے جب میرے مطیع فرماں بردار ہوتے ہیں تو میں ان بادشاہوں کے دلوں
کو رحمت و مرقت سے لبریز کر دیتا ہوں۔ اور اگر بندے میری نافرمانی و سرکشی
پر اتر آتے ہیں تو میں ان کے دلوں کو تھنی و بے مر QTی کا نمونہ بنادیتا ہوں، پھر وہ
تمہیں بدترین قسم کا عذاب چکھاتے ہیں؛ لہذا تم ان بادشاہوں کو برا بھلا کئے
میں اپنی جانیں نہ کھپاؤ بلکہ تو بہ ورجوع کے ذریعہ تم میری طرف پلٹ آؤ اور خود کو
ذکر و دعا میں مشغول کرلو، میں تمہارے بادشاہوں کے مقابلے تمہارے لیے کافی
ہوں گا۔

(۱) حلیۃ الاولیاء: ۳۸۹/۱..... مجمجم کیر طبرانی: ۲۶۳/۲۰ فائدہ تمام: ۱۷۷۲ حدیث: ۱۱۳/۲ حدیث: ۲۱۵

☆ زندگی بہت مختصر ہے اسے عدا توں کے پیچھے ضائع نہ کریں۔

[[٢٠]] حضرت مالک بن دینار حکومہ حسن حضرت کعب بن عجرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

لا تضربو إماء کم على إماء کم فإن لها آجالاً كاجال
الناس . (۱)

یعنی (اے لوگو!) اپنی کئی لوگوں کو برتنوں سے نہ مارا کرو؛ کیوں کہ عام لوگوں کی مانند ان کے دلوں میں بھی عزت و تکریم کا احساس زندہ ہوتا ہے۔

[[۲۱]] حضرت مالک بن دینار حضرت عطا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سراقة نے فرمایا :
تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تمتعنا معه فقلنا
الآن خاصةً ألم لأبدِ قال بل لأبدِ . (۲)

یعنی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ہمیں حج تمعن کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا یہ حج تمعن صرف ہمارے لیے خاص ہے؟ فرمایا: نہیں بلکہ یہ ابداً الابد تک کے لیے ہے۔

[[۲۲]] حضرت مالک بن دینار حکومہ عطا حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا :
العمرَى جائزَةُ . (۳)

یعنی عرصہ دراز تک کسی کو کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کا مجاز بنا دینا، ہبھترین انعام ہے۔

(۱) حلیۃ الاولیاء: ۲۵۲/۳۔

(۲) سنن نسائی: ۱۹۳۰ حديث: ۷۸..... سنن کبریٰ: ۲۷۵..... سنن رضی: ۳۶۷/۱۲..... مجمع کبیر طبرانی: ۱۲/۲۶۱ حديث: ۲۷۵..... المناکب لابن ابی عربہ: ۱/۱۰۵..... جیہۃ الوداع لابن حزم: ۱/۳۲۱ حديث: ۳۰۲..... مسند جامع: ۲۷/۱۳..... مسند جامع: ۳۰۲/۱۳ حديث: ۳۹۹۳۔

(۳) سنن نسائی: ۱۲/۱۷ حديث: ۷..... سنن کبریٰ: ۳۶۶/۱۲..... سنن رضی: ۱۳۰/۳..... مجمع اوسط طبرانی: ۱/۱۳..... مسند جامع: ۳۱۵ حديث: ۲۲۳/۷۔

☆ جانور کی زبان بُحی ہوتی ہے؛ لیکن وہ بولتا نہیں۔ انسان کی زبان چھوٹی ہوتی ہے اور وہ خاموش نہیں ہوتا۔

حضرت مالک بن دینار حوالہ عطا حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا :

لَا تخلطوا الزبیب و التمر و لَا الْبُسْرَ و التمَرَ . (۱)

یعنی خشک انگور یا انجیر کو کھجور کے ساتھ مٹ ملاو اور یوں ہی کچی کھجور کی پکی ہوئی کھجور کے ساتھ آمیزش نہ کرو۔

حضرت مالک بن دینار بحوالہ حسن فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر 'زمام شعر من الفی' کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا :

یسألنی زماما من النار، ما كان ينبغي لك أن تسأليه و ما ينبغي لي أن أعتيكه . (۲)

یعنی کیا تم مجھ سے آتشیں لگانے مانگ رہے ہوں۔ ایسا سوال نہ تھیں زیب دیتا ہے اور نہ یہ یہ مردی شانِ رحمۃ للعالمین کے شایاں ہے کہ میں وہ تھیں عطا کروں۔

جعفر بن سلیمان حضرت مالک بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :

ما شبع رسول الله صلی الله علیہ وسلم من خبز فقط و لاحم
إلا على ضفف . (۳)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی شکم سیر ہو کر روٹی و گوشت نہیں کھایا؛ لالیہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ مکر کھار ہے ہوں۔

حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بدھی شخص سے ضفف کا معنی پوچھا تو اس نے بتایا کہ لوگوں کے ساتھ مکر کھانے کو ضفف کہتے ہیں۔

(۱) سنن نسائی: ۳۹۵/۱۶ حدیث: ۵۲۶۰..... سنن کبری: ۳/۲۰۶ حدیث: ۵۰۶۳..... سنن اوسط: ۱۳/۳۸۳ حدیث: ۲۰۲۲۔

(۲) مصنف ابن ابی شیبہ: ۷۲۲۔ (۳) شاکل محمد یہ ترمذی: ۱/۸۲ حدیث: ۷۳۔

☆ تعریف کریں تو کھل کر کریں اور تنقید کرتے وقت میانہ روی اختیار کریں۔

﴿۲﴾ حضرت مالک بن دینار بحوالہ شہر بن حوشب حضرت سعید بن عامر بن حذیم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا :

لو أن امرأة من أهل الجنة أشرفت إلى أهل الأرض لملأت الأرض ريح مسِكٍ، ولأذهبَت ضوءَ الشمسِ والقمرِ، وإنِّي والله ما كنتُ لأختارَكَ عليهنَّ ودفعَ في صدرها يعني امرأة . (۱)

یعنی اگر کوئی جنتی عورت زمین والوں کی طرف جھاںک لے تو پوری روے زمین بوے مشک سے مہک اٹھے، اور آفتاب و ماہتاب کی ساری تباہیاں پھیکی پڑ جائیں۔ اور میں بخدا تجھ کو ان سے بہتر نہیں سمجھتا، پھر سر کارنے اپنی الہیہ کے سینے کو دفع کیا۔

﴿۳﴾ حضرت مالک بن دینار بحوالہ العطا بن رباح حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں :

أمرنا رسول الله صلی الله عليه وسلم بأسباب غ الوُضُوء . (۲)

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کامل طور پر وضو کرنے کا حکم دیا۔

۱۸ حضرت مالک بن دینار نے حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم سے اس حال میں ملاقات کی کہ آپ بوسیدہ کپڑے میں لمبوس ایک لکھے ہوئے کانوں والے گدھے پر سوار تھے۔ حضرت سالم نے پوچھا: کون ہیں آپ؟، کہا: آپ ہی کے غلامزادوں میں سے ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیثیں سنائیں: (فرمایا):

(۱) مجمع کبیر طبرانی: ۵/۳۰۷ حدیث: ۵۲۷۹.....البعث لابن ابی داؤد جیتنی: ۱/۸۱ حدیث: ۸۰.....الزہر والرقائق لابن مبارک: ۱/۲۳۷ حدیث: ۲۲۶۔

(۲) مجمع کبیر طبرانی: ۹/۳۵۸ حدیث: ۱۱۱۸۲.....موسوعۃ اطراف الحدیث: ۱/۱۵۶۹۸ حدیث: ۱۳۶۱۸.....موسوعۃ آخرتیج: ۱/۱۳۶۲۳ حدیث: ۳۲۷۲۳۔

☆ جیسے آپ میھا پھل خریدتے ہیں اسی طرح میٹھے بول بھی اپنا کیں۔

إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْوِنُهُ، وَلَا يَسْلِمُهُ فِي
مَصِيرَةٍ نَزَّلَتْ بِهِ، وَإِنْ تَلَفَ خِيَارُ الْعَرَبِ وَالْمَوَالِيِّ يُحِبُّ بَعْضَهُمْ
بَعْضًا حَبًّا لَا يَجِدُونَ مِنْ ذَلِكَ بُدُّا، وَإِنْ تَلَفَ شَرَارُ الْفَرِيقَيْنِ
يَبْغِضُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا لَا يَجِدُونَ مِنْ ذَلِكَ بَدًا . (۱)

یعنی مسلم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ کسی پر ناقحت ظلم و زیادتی نہ
کرے، نہ کسی طور اُس کی خیانت کرے، اور نہ اُسے کسی ناگہانی مصیبت میں بے
سہارا تہبا چھوڑے۔ اور اگر غلام ان و آقا یا ان عرب ہلاک ہوں تو وہ آپس میں
محبت و اتحاد کی ایک بے مثال فضاقائم کر دیتے ہیں۔ اور اگر عرب و جم کے شریر
لوگ ہلاک ہوں تو آپس میں ایک دوسرے سے ایسے متفرق ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی
اپنا جواب آپ ہوتی ہے۔

حضرت مالک بن دینار بحوالہ عطا بن ابو رباح حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

مِنْ سَيِّلِ عَلِيمٍ فَكَتْمَهُ الْجَمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ . (۲)

یعنی جس سے (دین کی) کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے (جاننے کے باوجود)
نہیں بتایا، قیامت کے دن (اس کے منہ میں) آتشیں لگا کی جائے گی۔

حضرت مالک بن دینار بحوالہ خلاس بن عمرو حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

الْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَأْكُلُ حَتَّى يَشَبَّعَ، قَاءَ، ثُمَّ يَعُودُ

(۱) مجمع کبیر طبرانی: ۳۶۰/۱۰ حديث: ۱۳۰۲۱..... مجمع الزوائد و مصنف الفوائد: ۳۶۷/۳..... موسوعۃ اطراف
الحدیث: ۳۸۳/۱.....

(۲) مجمع کبیر طبرانی: ۲۳/۱۹ حديث: ۱۲۳..... الکفاۃ فی علمن الرؤاییۃ خطیب بغدادی: ۸۱/۱.....
موسوعۃ اخراج: ۲۰۰۳۳/۱..... حديث: ۱۱۵۱۲۳.....

☆ حالات اچھے نہیں، نہ سبی، طریکہ کلام تو اچھا ہو!

فی قبیله . (۱)

یعنی کوئی چیز ہدیہ کر کے اسے واپس لینا ایسا ہی ہے جیسے کسی کے نے خوب پیٹ
بھر کر کھایا پھر تے کی اور پھر دوبارہ اس تے کو کھانے لگا۔

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إنما مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أو آخره . (۲)
یعنی میری امت کی مثال بارش کی مانند ہے؛ نہیں معلوم کہ اس کا اول نفع
رساں ہے یا اس کا آخر فائدہ بخش ہے۔

حضرت مالک بن دینار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :
صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، و خلف أبي بکر
و خلف عمر، و خلف عثمان، و خلف علي، فکانوا یفتتحون
القراءة بـ الحمد لله رب العالمين، و كانوا یقرؤنها مالک
یوم الدین . (۳)

یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے
ساتھ ساتھ (خلفاء راشدین) حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور
حضرت علی کے پیچھے بھی نماز پڑھی تو وہ قراءت کا آغاز: الحمد لله رب العالمين
سے کیا کرتے تھے۔ نیزوہ مالک یوم الدین پڑھا کرتے تھے۔

(۱) مجمع بکر طبرانی: ۲۷۲/۱۹ حديث: ۲۷۵..... مجمع اوسط: ۲۹۳/۱۹ حديث: ۱۱۰۱۔

(۲) مجمع اوسط طبرانی: ۲۵۹/۹ حديث: ۲۲۰۲..... موسوعۃ اطراف الحدیث: ۱۰۲۵۳۲: ۱۰۷۳۸۲/۱ حديث: ۱۴۱ حديث: ۲۷۷۳۔

(۳) مجمع اوسط طبرانی: ۲۵۳/۱۱ حديث: ۵۱۷۵..... من ابو بیل موصی: ۱۹۲/۹..... الانصار
لابن عبد البر: ۱/۳۱ حديث: ۲۷..... قراءۃ خلف الامام بخاری: ۹۵/۱ حديث: ۹۱..... المعاфф لابن
ابی داؤد: ۱/۳۳۱ حديث: ۲۳۹..... مجمع ابن الاعربی: ۱/۳۵۳ حديث: ۳۵۲..... کنز العمال: ۸/۸
حدیث: ۲۲۱۶..... موسوعۃ اطراف الحدیث: ۵۲۲۰/۱ حديث: ۵۵۳۰..... موسوعۃ اخریت: ۱/۱۱۶
حدیث: ۲۱۳۹۶..... الجمال وجاهرا لعل: ۱۵۲۵۶۸..... الجمال وجاهرا لعل: ۱/۲۷۔

☆ بے لئے کوچھی طرح چپا کر ہی لگلا جاسکتا ہے۔

﴿٢٤﴾ حضرت مالک بن دینار حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یوں بھی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :

صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، و عمر، و عثمان و علی فلم اسمع أحداً منہم یجھر بیسم اللہ الرحمن الرحيم . (۱)

یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کے پیچھے نماز ادا کی مگر کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحيم جھر کے ساتھ پڑھتے نہیں سننا۔

﴿٢٥﴾ ایک مرتبہ حضرت میمونا کردی کا حضرت مالک بن دینار کے پاس آنا ہوا تو حضرت مالک نے پوچھا: آپ اپنے والد سے حدیثیں روایت کیوں نہیں کرتے؟ حالاں کہ آپ کے والد گرامی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارکہ پائی ہے اور آپ سے سماع حدیث بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں صرف الفاظِ حدیث میں کمی بیشی کے خوف سے نہیں بیان فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سناء ہے :

من کذب علی متعتمدا فليتبؤا مقعدہ من النار . (۲)

یعنی جو شخص مجھ پر دیدہ و دانستہ جھوٹ باندھے، تو اس کا شکانا جہنم ہے۔

﴿٢٦﴾ حضرت مالک بن دینار حضرت علقہ مزنی سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

(۱) ابی ابا سقی لابر ابیم بن عبد الصمد: ۲۶۱ حدیث: ۶۱۔

(۲) مجم اوسط طبرانی: ۲۷۱ / ۱۳ معرفۃ الصحابة لابی قیم اصحابی: ۲۵۳ / ۲۱ طرق حدیث من کذب علی محمد اطبرانی: ۱۵۰ حدیث: ۱۲۳۔

☆ اگر آگھیں روشن ہے تو ہر روز روزِ حشر ہے۔

ما ستر اللہ علی عبد ذنبہ فی الدنیا إلّا ستر علیہ فی الآخرة . (۱)
 یعنی اللہ تعالیٰ بندے کا جو گناہ دنیا میں چھپا دیتا ہے اسے آخرت میں بھی تخفیٰ ہی رکھے گا۔

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہند بن خدیجہ (ام المؤمنین) روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو الحکم (ابو جہل) کے پاس سے گزر رہے تھے تو اس نے سرکار اقدس کی طرف اپنی کن انگھیوں سے اشارہ کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا :

اللَّهُمَّ اجْعِلْ بِهِ وَزْغًا فِرْجَفْ مَكَانَهُ . (۲)

یعنی اے اللہ! اس کو ہلاکر کر کھو دے؛ چنانچہ وہ جگہ حرکت و اضطراب میں آگئی۔

حضرت مالک بن دینار نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

الدُّعَاءُ مَحْجُوبٌ عَنِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَصْلِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ . (۳)

یعنی دعا اُس وقت تک باراً جاہت سے بہرہ یا ب نہیں ہوتی جب تک کہ محمد اور آل محمد پر درود وسلام کا نذر رانہ پیش کر لیا جائے۔

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہند بن خدیجہ (ام المؤمنین) روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

مَا مِنْ عَبْدٍ يُخْطَبُ خُطْبَةً إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَ سَأَلَهُ عَنْهَا أَظْنَهُ

(۱) مجمع اوسط طبرانی: ۲۳/۱۳ حدیث: ۶۲۸۵۔

(۲) دلائل العروۃ بیہقی: ۲۷۲/۲..... معرفۃ الصحابة لابی قیم اصحابی: ۱۵۸/۱۹ حدیث: ۵۹۵..... خصائص کبری: ۱۲۲/۲۔

(۳) دلائل العروۃ بیہقی: ۲۷۹/۲ حدیث: ۱۵۳۸۔

☆ 'حیا' کے ساتھ تمام تکمیل اور 'بے حیائی' کے ساتھ تمام برائیاں وابستے ہیں۔

قال ما أراد بها . (۱)

لَعْنَ اللَّهِ سُجَانَهُ وَتَعَالَى بَنْدَهُ سَمَّ اَسَ كَهُ طَبَهُ وَبِيَانَ كَيْ بَابَتُ (بِرُوزِ مُحَشِّر) باز
بُمْ فَرَمَيْتَ گَا کَهُ اَسَ نَهَ لُوكُوںَ كَهُ سَامَنَهُ جُو پِيچَلَيَا اَسَ سَهَ اَسَ كَيْ مَرَادَ كَيَا ہے۔

حضرت جعفر بن سليمان فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار جب بھی یہ حدیث بیان کرتے پھوٹ کر رونے لگتے اور پھر فرماتے: تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں جو باتیں سناتا ہوں اس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، نہیں بلکہ مجھ تو ہمیشہ یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کل عرصہ محشر میں اللہ تعالیٰ مجھ سے میری نیتوں اور ارادوں کے بارے میں پوچھتا چھفرمائے گا۔

۲۹ حضرت مالک بن دینار حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

مَنْ أَصْبَحَ حَزِينًا عَلَى الدُّنْيَا أَصْبَحَ سَاخِطًا عَلَى رَبِّهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ يَشْكُو مَصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَإِنَّمَا يَشْكُو اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ تَضَعَّضَ لَفْنِي لِيَنَالَ مِنَ الدُّنْيَا أَحْبَطَ اللَّهُ ثَلَثِي عَمَلِهِ، وَمَنْ أُعْطِيَ الْقُرْآنَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ (۲)

لَعْنَ جُوْخَصْ دُنْيَا کے لَیْزِ حَزِينْ فَلَكْ مِنْدْ ہو کر صَبَحْ کرتا ہے گویا وہ مالک و مولا پر نار انصَگَی میں صَبَحْ کرتا ہے۔ اور جوْخَصْ اپنی کسی مصیبَتْ وَبَلَا کاشکوہ کرتے ہوئے صَبَحْ کرتا ہے گویا وہ براہ راست اللہ کاشکوہ کر رہا ہے۔ اور جوْخَصْ کسی مالدار اور صاحبِ حیثیت انسان کے لَیْزِ فَرَوْتَی کرتا ہے تاکہ اس سے کچھ دنیوی منفعت حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھائی اعمال ضائع فرمادیتا ہے۔ اور جسے قرآن عطا کیا گیا پھر بھی وہ (اس پر عمل نہ کر کے) آتش جہنم کا سُقْعَہ تھہرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔

(۱) شعب الایمان: ۳۰۲/۳ حديث: ۱۷۳۹.....الزہد لاحم بن حنبل: ۱۷۰/۳ حديث: ۱۹۱.....الترغیب والترہیب: ۱/۲۷ حديث: ۲۱۳۔ (۲) شعب الایمان: ۲/۲۱ حديث: ۶۲۸۸۔

☆ بِرَأْخَلَا كَارَوْهُ ہے جس کو لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرنے کی فرست ہوا۔

﴿٢﴾ حضرت مالک بن دینار حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إِذَا حَدَثَ الرَّجُلُ ثُمَّ التَّفَتَ فَهِيَ أَمَانَةً . (۱)

یعنی جب کوئی شخص بات کرے اور تم اس کی طرف متوجہ ہو کر دھیان سے سنو تو یہ ایک امانت (اور حق) ہے (جو تم صاحب امانت کے حوالے کر رہے ہو)۔

﴿۳﴾ حضرت مالک بن دینار حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب حضرت ابو سلمہ کا دنیا سے چل چلا وہ کا وقت آگیا تو اُم سلمہ نے عرض کیا: خود تو جار ہے ہیں مگر مجھے کس کے بھروسے چھوڑے جا رہے ہیں؟۔ فرمایا: اے اللہ! تو اُم سلمہ کے لیے ابو سلمہ سے بہتر کا انتظام فرمادے؛ چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انھیں پیغام نکال دیا۔ انھوں نے عرض کیا: میں کافی عمر دراز ہو چکی ہوں۔ سرکار نے فرمایا :

أَنَا أَكْبَرُ مِنْكَ سَنًا، وَ الْعِيَالُ عَلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَمَّا الْغَيْرَةُ
فَأَرْجُو اللَّهَ أَنْ يَذْهَبَهَا . (۲)

یعنی عمر (و مرتبہ) میں تو میں تم سے بڑا ہوں۔ اور اہل و عیال اللہ و رسول کے ذمہ کرم پر ہے۔ رہی بات غیرت کی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اسے دور فرمادے گا۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انھیں امہات المؤمنین میں شامل ہونے کا شرف بخش دیا۔ اور ان کے پاس دو چکی اور پانی کا ایک برتن بھیج دیا۔

(۱) مسنابویطی موصی: ۱۹۲/۹ حديث: ۳۰۴۹..... الطالب العالی عسقلانی: ۸/۲۹ حديث: ۲۷۲۲۔

(۲) مسنابویطی موصی: ۱۹۵/۹ حديث: ۳۰۵۲..... الطالب العالی عسقلانی: ۱۱/۳۷۳ حديث: ۳۲۱۲..... اتحاف الاجمیعۃ المبررة: ۳۸/۲ حديث: ۳۲۲۲..... موسوعۃ آخرین: ۱/۹۶۹۵ حديث: ۲۲۳۹۸۔

☆ 'دُنیا' جس کے لیے قید ہے، قبر اس کے لیے آرام گاہ ہے۔

حضرت مالک بن دینار خادم رسول حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إن أنجاكم يوم القيمة من أهواها و مواطنها أكثركم علي
صلوة في دار الدنيا . (۱)

یعنی قیامت کے دن ہر مقام پر اُس کی ہونا کیوں سے وہ شخص زیادہ محفوظ ہوگا جس نے زیادہ سے زیادہ دنیا کے گھر میں مجھ پر درود وسلام پڑھا ہوگا۔

حضرت مالک بن دینار حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

من كسب مسجدا و رشه، كأنه حج معى أربع مائة حجة و غزا
معى أربع مائة غزوة، وصام معى أربع مائة يوم وأعتق أربع مائة
نسمة . (۲)

یعنی جس نے کسی مسجد میں جھاؤ دیا، پانی کا چھڑکا و کیا اور اس کو دھویا (تو اس کا ثواب ایسے ہی ہے) گویا کہ اس نے میری معیت میں چار سو حج کیے، میرے ساتھ چار سو غزوات کیے، چار سو روزے رکھے اور چار سو گرد نیں آزاد کیں۔

حضرت مالک بن دینار حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

خیر کم من لقینی على ما فارقني عليه . (۳)

یعنی تم میں ہترین وہ ہے جو مجھ سے اس حال میں مل جس حال میں کہ مجھ سے جدا ہوتے وقت تھا۔

(۱) شرف اصحاب الحدیث بغدادی: ۱/۱۳۲ حدیث: ۷۰۔

(۲) اخبار اصحاب: ۱/۵۰۰ حدیث: ۳۲۷۔

(۳) اخبار اصحاب: ۲/۶۷۲ حدیث: ۲۳۲..... طبقات الحمد شیعیں باصحاب: ۲/۳۰۰ حدیث: ۲۳۹۔

☆ جلدی معاف کرنا اپنے شرافت اور انتقام میں جلدی کرنا اپنے رذالت ہے۔

[۲۵] حضرت عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت مالک بن دینار ایک انصاری شیخ سے اور وہ ابو حذیفہ کے غلام سالم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

يُؤْتَى بِأَقْوَامَ مَنْ وَلَدَ آدَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَهُمْ حَسَنَاتٌ كَأَنَّهَا مُثُلٌ
جَبَالٌ تَهَامَةٌ، حَتَّى إِذَا دَنَا يَعْنِي وَأَشْرَفَوا عَلَى الْجَنَّةِ نَوْدَيْ فِيهِمْ
لَا نَصِيبٌ لَكُمْ فِيهَا، قَلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَلَ هُوَ لَاءُ الْقَوْمِ لَنَا حَتَّى
نَعْرَفَهُمْ، فَوَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ مِنْهُمْ،
فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ كَانُوا يَصُومُونَ، وَيَصْلُوُنَ وَيَقُومُونَ لِيَلْهُمْ وَلَكُنْهُمْ
إِذَا شَرَعَ لَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْحِرَامِ وَثَبَوْا عَلَيْهِ فَأَجْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
أَعْمَالَهُمْ . (۱)

یعنی قیامت کے دن بنی آدم سے کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کے پاس تہامہ پہاڑ کے بر ابر نیکیاں ہوں گی؛ لیکن جب وہ جنت کے قریب ہوں گے اور جنت میں جانا چاہیں گے تو انھیں یہ کہہ کر روک دیا جائے گا کہ جنت میں تمہارا کچھ بھی حق نہیں ہے۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ! ہمیں ان لوگوں کے اوصاف بیان فرمادیں تاکہ ہم انھیں جان لیں؛ کیوں کہ قسم بخدا! مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں میں بھی انھیں لوگوں میں سے تو نہیں۔

آپ نے فرمایا: وہ روزے بھی رکھیں گے، نمازیں بھی پڑیں گے، راتوں میں اٹھ کر قیام بھی کریں گے؛ مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی حرام چیزان کے سامنے آتی تو وہ اس پر اونڈھے ٹوٹ پڑتے تھے۔ پس اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کیے اعمال آکارت فرمادیے۔

(۱) امام ابن بشران: حدیث: ۳۸۰: مجمع الصحابة ابن قانع: ۳۷۱/۲: حدیث: ۵۲۲:-

☆ بے صبری کچھ تقدیراللہ کو تو نہیں مٹاتی، ہاں اجر و ثواب سے محروم کر دیتی ہے!

حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ حَتَّى تَرْمِ قَدْمَاهُ.

يَعْنِي نَبِيٌّ كَرِيمٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتَى دِيرَيْنِكَ قِيَامًا فَرَمَّا تَحْتَهُ كَمَا كَانَ أَنْ يَرِيدُ.

حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَعَ عَرْضَ كَيَا جَاتَ: يَارَسُولَ اللَّهِ! آپ اتنا مبارکہ قیام کیوں فرماتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے الگ پچھلے سب کچھ معاف فرمادیے ہیں۔ فرماتے:

أَفَلَا أَكُونْ عَبْدًا شَكُورًا . (۱)

يَعْنِي کیا میں (اپنے مولا کا) شکر گزار بندہ نہ بنوں!۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا :

شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أَمْتِي وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةُ "إِنْ تَجْتَبَنِي
كَبَائِرَ مَا تُنْهَا وَنَعْنَهُنَّ كُفَّارٌ عَنْكُمْ سَيِّئَاتُكُمْ وَ نُذُنُوكُمْ مُذَخَّلًا
كَرِيمًا" (۲)

یعنی میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرکبین کے لیے ہوگی۔ اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی: اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی براہیاں منادیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرمادیں گے۔

(۱) الاربعون في شيخ الصوفية للماطي: ۱۶۹ حدیث: ۱۲۹۔

(۲) سورہ نساء: ۳۱/۳.....الاعقادۃ بحقیقی: ۱/۱۸۱ حدیث: ۱۶۵۔

☆ 'حرص' سے کچھ روزی نہیں بڑھ جاتی؛ ہاں آدمی کی قدر ضرور گھست جاتی ہے۔

﴿٣٨﴾ حضرت مالک بن دینار بحوالہ معبد ہجتی حضرت عثمان بن عفان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

الحمد لله رب العالمين حظ المؤمن في الدنيا من النار يوم القيمة . (۱)

یعنی بخار روز قیامت کی آگ کا ایک حصہ ہے جسے مونمن کو دنیا ہی میں چکھا دیا جاتا ہے۔

﴿٣٩﴾ حضرت مالک بن دینار بحوالہ اخف حضرت ابوذر سے روایت کرتے ہیں :

إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الكوفة فذكر أنه سينزل بهم بلايا عظام، ثم ذكر أهل البصرة، فذكر أنهم أفضل أهل الأمصار قبلة وأكثرهم مؤذنا يدفع عنهم ما يكرون . (۲)
یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان پر عنقریب بڑی بڑی بلایں اور عظیم آزمائشیں اترنے والی ہیں۔ پھر آپ نے اہل بصرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ دین اور موذنین کے اعتبار سے شہریوں میں سب سے اچھے اور افضل لوگ ہوں گے۔ ان سے وہ ساری چیزیں دور کر دی جائیں گی جنھیں وہ ناپسند کرتے ہیں۔

﴿٤٠﴾ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ ایک بار حاج کے پاس میراجناہوا تو اس نے کہا: کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث حسن سننا چاہیں گے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں ضرور سناؤ۔ تو کہا کہ مجھ سے حضرت ابو بردہ سے اور ان سے ان کے والد نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

(۱) الفضعاء الكبير عقلی: ۷/۱۹۳ حديث: ۱۶۳۸۔

(۲) الطالب العالی عقلانی: ۱۲/۱۰۲ حديث: ۳۳۰۲۔

☆ جو شخص کسی کے عیب کی طاش میں رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب بل ہی جاتا ہے۔

من کانت له إلى الله عزوجل حاجة فليدع بها دبر كل صلاة

مفروضة . (۱)

یعنی جسے اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت درکار ہوتا اسے ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے۔

☆ حضرت مالک بن دینار بحوالہ ابو مسلم خولاںی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

لو صلیتم حتى تكونوا كالحنایا، وصتم حتى تكونوا
كالأوتار، ثم كان الانسان أحب إليكم من الواحد لم تبلغوا
الاستقامة . (۲)

یعنی اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمان کی مانند خمار ہو جاؤ، اور روزہ رکھتے رکھتے تانت کی طرح دبلے ہو جاؤ، پھر بھی تمہاری نگاہوں میں دو ایک سے محبوب تر ہو تو سمجھو کہ ابھی تم مرتبہ استقامت کوئی پہنچے۔

☆ حضرت مالک بن دینار خادم النبی حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إن أقربكم مني يوم القيمة في كل موطن أكثركم على صلاة
في الدنيا، من صلى علي في يوم الجمعة وليلة الجمعة
قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من
حوائج الدنيا، ثم يوكل الله بذلك ملكا يدخله في قبرى كما

(۱) المقللين من الاراء والسلطين تمام بن محمد مشقی: ۹/۱ حدیث: ۶۔

(۲) مسندا بر ایمین بن ادیم الزراہد لابن منده: ۱/۳۲۷ حدیث: ۲۲۔

☆ جس شخص کے دل میں حتیٰ زیادہ حرص ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر اتنا ہی کم یقین ہوتا ہے۔

تدخل عليكم الهدایا، يخبرني من صلی علی باسمه و نسبة إلى
عشیرته، فأثبته في صحیفة بیضاء . (۱)

یعنی قیامت کے دن ہر مقام پر مجھ سے زیادہ قریب و شخص ہو گا جس نے دنیا
میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہو گا۔ اور جو (خوش نصیب) شخص مجھ پر بروز جمعہ اور
شب جمعہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سوچ جتنی پوری فرمائے گا، جن میں ستر کا
تعلق تو آخرت سے ہو گا مگر تین حاجتیں اسی دنیا کی ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی
جانب سے مقرر کردہ فرشتے کے ذریعہ اس کا یہ درود وسلام اس کے نام و نسب اور
خاندان کی نشاندہی کے ساتھ میرے پاس ایسے ہی پہنچتا ہے جیسے تم ایک دوسرے
کو تحفے تھائف دیا کرتے ہو، جسے میں اپنے پاس موجود ایک نقش کتابچے میں رقم
کر لیتا ہوں۔

☆ حضرت مالک بن دینار رحمۃ الرحمٰن حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

إِنَّ لَّهُ عَزَّ وَجْلَ لَوْحًا أَحَدٌ وَجَهِيهِ يَا قُوتَةُ وَالْوَجْهُ الثَّانِي زَمَرَدَةُ
خَضْرَاءُ، قَلْمَهُ النُّورُ، فِيهِ يَخْلُقُ، وَفِيهِ يَرْزُقُ، وَفِيهِ يَحْيِي، وَفِيهِ
يَمْبَيْتُ، وَفِيهِ يَعْزُ وَفِيهِ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةً۔ (۲)

یعنی اللہ عزوجل کے پاس ایک تختی ہے، جس کا ایک سرایا قوت کا اور دوسرا
سائز مرد کا ہے، اور اس کا قلم سراپا نور ہے۔ کس کو پیدا کرنا ہے، کسے رزق پہنچانا
ہے، کسے زندگی بخشنا ہے، کسے موت سے ہمکنار کرنا ہے، کسے عزت عطا کرنا ہے
اور ہر دن رات کیا کرنا ہے اس کی تفصیلات اس میں موجود ہوتی ہیں۔

(۱) ما ورد فی حیاة الانہیاء بعد وفاتہم: ۲۱..... حیاة الانہیاء فی قبورہم: ۱۳..... حدیث: ۱۳..... فوائد ابن
منده: ۱۲/۸۲۔۔۔ مگر ابن مندہ نے اسے موضوع لکھا ہے..... فضائل الاوقات بیہقی: ۱/۳۰۸ حدیث: ۲۱۔۔۔

(۲) الختمة لا بالي الشیخ اصحابی: ۱/۱۴۵ حدیث: ۱۵..... مگر صاحب موضوعات نے اسے موضوع قرار دیا
ہے: الموضوعات: ۱/۱۷۔۔۔ اللہ رسول اعلم۔۔۔

☆ احمد کی عقل اس کی زبان کے پیچھے ہوتی ہے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔

☆ حضرت مالک بن دینار حضرت انس بن مالک کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله . (۱)

یعنی جس کا ورع و تقویٰ خلوت اور تہائی میں اسے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرنے سے نہ رُوک سکے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے دیگر اعمال کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔

☆ حضرت مالک بن دینار حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

حياتي خير لكم ثلاث مرات و وفاتي خير لكم ثلاث مرات
فسكت القوم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأبي أنت وأمي
أمي كيف يكون هذا قلت حياتي خير لكم ثلاث مرات ثم قلت
موتي خير لكم ثلاث مرات قال حياتي خير لكم ينزل علي
الوحى من السماء فأخبركم بما يحل لكم وما يحرم عليكم و
موتي خير لكم تعرض علي أعمالكم كل خميس فما كان من
حسن حمدت الله عزوجل عليه وما كان من ذنب استو هبت
لكم ذنوبكم . (۲)

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین تین مرتبہ فرمایا: میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سن کر سب لوگ خاموش رہے مگر حضرت عمر بن خطاب نے (وضاحت چاہتے ہوئے) عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! یہ کیسے ہوگا۔ آپ نے تین مرتبہ فرمایا کہ

(۱) موسوعۃ اطراف المحدث: ۲۴۳۹۳۶ / ۱: ۲۷۳۱۰۶۔

(۲) سلواۃ الکتبیب بوقۃ الحجیب: ۳۲ / ۱۔

☆ جو شخص اپنا بھی محفوظ رکھنے سے عاجز ہوتا ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ رکھنے سے نہایت عاجز ہو گا!۔

میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے پھر تین مرتبہ فرمایا کہ میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا: میری حیات تمہارے لیے اس اعتبار سے بہتر ہے کہ مجھ پر آسمان سے وی کا نزول ہوتا ہے تو میں تمہارے لیے حلال و حرام کو بیان کرتا ہوں۔ اور میری وفات اس لیے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال ہر پنجشنبہ کو میری بارگاہ میں پیش ہوں گے تو تم میں جس کی طرف سے اچھائی دیکھوں گا اس پر اللہ کی حمد و شاکریوں گا، اور جس کے گناہ آئیں گے اس کے گناہوں کی بخشش کی دعا کروں گا۔

حضرت مالک بن دینار حضرت حسن سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا :

اللَّهُمَّ كَمَا أَتَيْنَاهُمْ فَخَانُونِي، وَ نَصَحَّتْ لَهُمْ فَغَشَوْنِي، فَسُلْطَنِي
عَلَيْهِمْ فَتَّى ثَقِيفَ الدَّبَالِ الْمَيَالِ، يَا كُلَّ خَضْرَتِهَا وَ يَلِسْ فَرُوتِهَا وَ
يَحْكُمُ فِيهَا بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ . (۱)

یعنی اے پروردگار! تو نے مجھے ان کا حاکم و امین بنایا مگر انہوں نے میری خیانت کی، میں نے ان کو پند و نصائح سے نوازا مگر انہوں نے اس کا اُلٹا کیا؛ ہذا تو ان پر ایک ایسے سخت کڑیل اور بے رحم شخص کو مسلط فرمادے جوان کی ہر یالیوں اور شادا یوں کو نگل جائے، ان کا تابیخ نخوت زمین بوس کر دے، اور بالکل انہا دھنداں پر حکومت کرے۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس وقت زبانِ علی سے یہ کلمات آدما ہو رہے تھے، ابھی حاج بن یوسف پیدا بھی نہ ہوا تھا۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

(۱) دلائل النبوة بیانی: ۷/۳۰۵ حدیث: ۲۸۳۶۔

☆ جو شخص کل کو اپنی موت کا دن سمجھتا ہے، موت کے آنے سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔

خطب عمر بن الخطاب الناس و هو خليفة و عليه إزار فيه اثنا

عشر رقعة . (۱)

یعنی حضرت عمر بن خطاب لوگوں سے اس حال میں خطاب فرمائے تھے کہ آپ کے
تھے بند پر بارہ پیوند لگے ہوئے تھے۔

حضرت مالک بن دینار حضرت احلف بن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

من کثر ضحاکہ قلت هیبتہ، ومن کثر مزاحہ استخف به، و من
اکثر من شیء عرف به، ومن کثر کلامہ کثر سقطہ، ومن کثر
سقطہ قل حیاؤه، و من قل حیاؤه قل ورعه و من قل ورعه
مات قلبہ . (۲)

یعنی جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دبدبہ و ہیبت گھٹ جاتا ہے۔ جو زیادہ انہی مذاق
کرتا ہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو کوئی عمل کثرت سے کرتا ہے تو وہی اس
کا ذریعہ تعارف بن جاتا ہے۔ جو جتنی باتیں کرتا ہے اس سے لغزش بھی زیادہ
ہوتی ہے۔ جو زیادہ لغزش کھاتا ہے اس کی شرم و حیا گھٹ جاتی ہے۔ جس کی شرم
و حیا گھٹ جاتی ہے پھر اس کی پرہیزگاری جواب دے جاتی ہے اور جس کی
پرہیزگاری کا جنازہ نکل جائے تو سمجھواں کا دل مردہ ہو گیا ہے۔

(۱) معرفۃ الصحابة لابی نعیم اصحابی: ۲۲۲/۱..... شعب الایمان: ۱۵/۱..... حدیث: ۳۸۰۹.....
الاہد والرقائق لابن مبارک: ۵۰۰/۲..... حدیث: ۹۵۲..... موسوعۃ التحریج: ۱۱۰/۸..... حدیث: ۳۳۰۲۳۔

(۲) منڈ شہاب قضاۓ: ۱/۲..... حدیث: ۳۵۸..... شعب الایمان: ۱۱/۱..... حدیث: ۱۵/۱..... موسوعۃ
اطراف الحدیث: ۱/۱۸..... حدیث: ۶۱۵/۱..... حدیث: ۱۸۲۲۵۵۔

☆ علم کی خوبی اس پر عمل کرنے میں اور احسان کی خوبی اس کے نہ جلانے پر محصر ہے۔

مناجات دربارگاہ مجیب الدعوات

حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی پرسوز دعا پر کتاب اپنے اختتام کو پیغام
رہی ہے، اللہ قبول فرمائے اور مزید خیر کی توفیق ہمارے رفیق حال کر دے۔

اللهی قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، و
عجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، و انحسرت الأبصار
دون النظر إلى سمات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقة إلى
معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك

اللهی فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في
حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم فهم
إلى أو كار الأفكار يأزوون، وفي رياض القرب والمكافحة
يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، و شرائع
المصافة يرذون .

قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن
عقائدهم و ضمائركم، و انتفت مخالجة الشك عن قلوبهم و
سرائرهم، و اشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم و علت لسبق
السعادة في الزهادة هممهم، و عذب في معين المعاملة شربهم،
وطاب في مجلس الأنس سرهم، و أمن في موطن المخافة سربرهم،
واطمأنت بالرجوع إلى رب الأرباب أنفسهم، و تيقنت بالفوز و
الفلاح أرواحهم، و قرب بالنظر إلى محبوبهم أعينهم، و استقر
بإدراك المسؤول و نيل المأمول قرارهم، و ربحت في بيع الدنيا
بالآخرة تجارتهم .

☆ موت سے بڑھ کر کوئی پچی اور آمید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں !۔

إِلَهِي مَا أَلَّدْ خَواطِرَ الْإِلَهَامَ بِذِكْرِكَ عَلَى الْقُلُوبِ! وَمَا أَحْلَى
الْمَسِيرَ إِلَيْكَ بِالْأَوْهَامِ فِي مَسَالِكَ الْغَيُوبِ! وَمَا أَطِيبُ طَعْمَ
حَبْكَ! وَمَا أَعْذَبُ شِربَ قَرْبَكَ!

فَأَعْذَنَا مِنْ طَرْدَكَ وَإِبعادِكَ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَخْلُصِ عَارِفيْكَ،
وَأَصْلَحْ عَبَادَكَ، وَأَصْدِقْ طَائِعِكَ، وَأَخْلُصْ عَبَادَكَ، يَا
عَظِيمَ، يَا جَلِيلَ، يَا كَرِيمَ، يَا مُنْيَلَ بِرَحْمَتِكَ وَمُنْكَ يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ .

یعنی میرے معبدو! تیری جلالت شان کے مناسب تیری تعریف کرنے میں
زبانیں گنگ ہیں، اور تیرے جمال کی حقیقت کو مجھنے سے لوگوں کی عقلیں عاجز
ہیں، تیری ذات کے جلوؤں کی طرف نظر کرنے میں آنکھیں درمانہ ہو کر رہ جاتی
ہیں۔ لوگوں کے لیے تیری معرفت کا حصول بس بھی ہے کہ وہ تیری معرفت سے
قاصر ہیں۔

میرے مولا! مجھے ان لوگوں میں سے ترا دے جن کے سینوں کے باغچوں میں
تیرے شوق کے درخت جڑ پکڑ چکے ہیں، اور تیرے سوزِ محبت نے ان کے دلوں کو
گھیر کھا ہے، اب وہ یادوں کے آشیانے میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور تیرے
قرب اور جلوے کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں۔ وہ تیری محبت کے چشموں سے
جام الافت کے گھونٹ پی رہے ہیں اور صاف سترے گھاؤں پر لٹکر انداز ہیں۔

ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھ چکا ہے، شک و ارتیاب کی کالک ان کے عقیدوں
اور ضمیروں سے دور ہو چکی ہے، ان کے دلوں اور باطنوں سے شبہ کے اثرات ختم
ہو گئے ہیں، صحیح معرفت حاصل ہونے سے ان کے سینے کھل چکے ہیں، حصول
سعادت کے لیے زہد میں ان کی ہمتیں بلند ہو گئی ہیں، کردار کے چشمہ میں ان کا پینا

☆ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے اور جو سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔

شیریں ہے۔ انس و محبت کی محفل میں ان کا باطن صاف ہے، خوفناک جگہوں پر ان کے گروہ امن و امان میں ہے، اور پالنے والوں کے پالنے والے کی طرف بازگشت میں ان کے نفس مطمئن ہیں، ان کی روحوں کو نکشش و کامیابی کا یقین ہے، ان کی آنکھیں دیدارِ محبوب سے خنک ہیں، ان کو حاجتیں پوری ہونے اور مرادیں برآنے سے قرار حاصل ہے، آخرت کی خاطر دنیا کی فروخت میں ان کا سودا نقش بخش ہے۔

میرے پروردگار! کیا ہی مزہ ہے ان خیالوں میں جوتیرے ذکر سے دلوں میں آتے ہیں اور کتنا شیریں ہے تیری طرف وہ سفر جو بجیال خود غیب کے راستوں پر جاری ہے، کتنا اچھا ہے تیری محبت کا ذاتُ القہ اور کتنا میٹھا ہے تیرے قرب کا ثریب۔

پس، ہمیں اس سے پناہ دے کہ تیرے ہاں سے ہائے جائیں، اور تجھ سے دور رہیں، ہمیں قرار دے اپنے قرب یافت عارفوں اور صالح ترین بندوں میں اور اپنے سچے فرماں برداروں اور کھرے عبادت گزاروں میں رکھ۔

اے عظمت والے! اے جلال والے! اے مہربان! اے عطا کرنے والے!

تجھے تیری رحمت و احسان کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ آمین۔

رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَ قَنَا عَذَابَ النَّارِ ۝
 اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَ عَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَ هَذَا الْجَهَدُ وَ عَلَيْكَ التَّكْلِانُ،
 وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ الْأَمِينِ الْمَكِينِ الْحَلِيمِ الْكَرِيمِ الرَّؤُوفِ
 الرَّحِيمِ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

☆ جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون سے دور ہو جاتا ہے۔

كتابيات:

- قرآن کریم . ابتدائے نزول: ۶۱۰ء - انتہائے نزول: ۹ ربیع الحجه ۱۴۰۱ھ / ۲۳۲ء
- المنساک لابن أبي عروبة : حافظ ابو نصر سعید بن ابی مهران بصری [۱۴۵۷م]
- الزهد والرقائق لابن المبارک : عبد اللہ بن مبارک [۱۴۸۱م]
- مسنند الطیالسی : سلیمان بن داؤد طیالسی [۱۴۲۰م]
- مصنف ابن أبي شيبة : ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن احمد بن حنفی [۱۴۲۳م]
- مسنند عبد بن حمید : ابو محمد عبد بن محمد بن حمید کشی [۱۴۲۳م]
- مسنند امام احمد بن حنبل : امام احمد بن محمد بن حنبل شیبانی [۱۴۲۳م]
- الزهد لأحمد بن حنبل : امام احمد بن محمد بن حنبل شیبانی [۱۴۲۳م]
- تاریخ خلیفہ : ابو یور و خلیفہ بن همیرہ شیبانی عصری [۱۴۲۳م]
- الأدب المفرد للبغاری : امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری [۱۴۲۵م]
- التاریخ الكبير : امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری [۱۴۲۵م]
- قراءة خلف الإمام : امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری [۱۴۲۵م]
- التاریخ الصغیر : امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری [۱۴۲۵م]
- المعجم الكبير : امام سلیمان بن احمد طبرانی [۱۴۲۶م]
- المعجم الأوسط : امام سلیمان بن احمد طبرانی [۱۴۲۶م]
- طرق حدیث من کذب علی متعتمدا: امام سلیمان بن احمد طبرانی [۱۴۲۶م]

☆ عقل مند بولے سے پہلے سوچتا ہے اور بے وقوف بولے کے بعد سوچتا ہے۔

- الجرح و التعديل : احمد بن عبد اللہ عجمی کوفی [۵۲۶۱]
- سنن ابن ماجہ : امام عبد اللہ محمد بن یزید ابن مجتبی قزوینی [۵۲۶۳]
- سنن ابی داؤد : امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث [۵۲۶۵]
- الزهد لأبي داؤود : امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث [۵۲۶۵]
- أخبار مكة للفاكهي : محمد بن الحنفی بن عباس فاکھی [۵۲۶۵]
- عيون الأخبار : عبد اللہ بن مسلم بن قتيبة کوفی دینوری [۵۲۶۶]
- غریب الحدیث : عبد اللہ بن مسلم بن قتيبة کوفی دینوری [۵۲۶۷]
- الزهد لأبي حاتم الرازی : محمد بن ادریس بن منذر ابو حاتم رازی [۵۲۶۸]
- علل الترمذی الكبير : امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی [۵۲۶۹]
- شمائل محمدیہ : امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی [۵۲۶۹]
- أنساب الأشراف : ابو الحسن احمد بن يحيى بلاذری [۵۲۷۰]
- المعرفة و التاريخ : یعقوب بن سفیان ہمدانی فسوی [۵۲۸۰]
- المنامات : عبد اللہ بن محمد ابن ابی الدنیا قرقشی بغدادی شافعی [۵۲۸۱]
- الصمت : عبد اللہ بن محمد ابن ابی الدنیا قرقشی بغدادی شافعی [۵۲۸۱]
- التوبۃ : عبد اللہ بن محمد ابن ابی الدنیا قرقشی بغدادی شافعی [۵۲۸۱]
- الرقة و البکاء : عبد اللہ بن محمد ابن ابی الدنیا قرقشی بغدادی شافعی [۵۲۸۱]
- إصلاح المال : عبد اللہ بن محمد ابن ابی الدنیا قرقشی بغدادی شافعی [۵۲۸۱]
- الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر : ابن ابی الدنیا بغدادی شافعی [۵۲۸۱]
- التهجد و قیام اللیل : عبد اللہ بن محمد ابن ابی الدنیا قرقشی بغدادی شافعی [۵۲۸۱]
- العقوبات : عبد اللہ بن محمد ابن ابی الدنیا قرقشی بغدادی شافعی [۵۲۸۱]
- الجوع : عبد اللہ بن محمد ابن ابی الدنیا قرقشی بغدادی شافعی [۵۲۸۱]

☆ جھوٹ سے ہمیشہ دور ہیں کہ وہ آپ کو ہمیشہ دھوکے میں رکھے گا۔

- ✿ المتنمین : عبد اللہ بن محمد ابن ابی الدنیا قرقشی بغدادی شافعی [۵۲۸۱]
- ✿ الكامل فی اللغة و الأدب : ابوالعباس محمد بن یزید برازدی بصری [۵۲۸۵]
- ✿ مختصر قیام اللیل للمرزوqi : ابوعبدالله محمد بن نصر مرزوqi [۵۲۹۳]
- ✿ تعظیم قدر الصلوٰۃ : ابوعبدالله محمد بن نصر مرزوqi [۵۲۹۳]
- ✿ مسنّد أبي یعلی الموصلي : احمد بن علی موصلي [۵۳۰۷]
- ✿ مستخرج أبي عوانة : یعقوب بن اسحاق اسفرائی [۵۳۱۶]
- ✿ البعث لابن أبي داؤود : سلیمان بن اشعث بن الحنفی ابو داؤد سجستانی [۵۳۱۶]
- ✿ المصاحف لابن أبي داؤود : سلیمان بن اشعث بن الحنفی ابو داؤد سجستانی [۵۳۱۶]
- ✿ طبقات ابن سعد : محمد بن سعد [۵۳۲۰]
- ✿ الکنی و الأسماء : ابویشر محمد بن احمد بن حماد دولاپی رازی [۵۳۲۰]
- ✿ الضعفاء الكبير للعقيلي : ابوحنظر محمد بن عمر عقيلي کی [۵۳۲۲]
- ✿ أخبار عقلاء المجانين : ابوالازہر محمد بن زید خوی [۵۳۲۵]
- ✿ تفسیر ابن ابی حاتم : ابومحمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم [۵۳۲۶]
- ✿ اعتلال القلوب : ابوبکر محمد بن جعفر بن محمد خراطی [۵۳۲۷]
- ✿ مکارم الأخلاق : ابوبکر محمد بن جعفر بن محمد خراطی [۵۳۲۷]
- ✿ مساوی الأخلاق : ابوبکر محمد بن جعفر بن محمد خراطی [۵۳۲۷]
- ✿ العقد الفريد : احمد بن عبد ربہ قرطبی اندرسی [۵۳۲۸]
- ✿ معجم ابن الأعرابی : ابوسعید احمد بن محمد بن اعرابی [۵۳۳۱]
- ✿ معجم الصحابة لابن قانع : ابوالحسن عبد الباقی بن قانع [۵۳۵۱]
- ✿ تفسیر نیسا فوری : احمد بن محمد نیسا پوری [۵۳۵۳]
- ✿ طبقات المحدثین : مسلم بن قاسم اندرسی [۵۳۵۳]

☆ الحق سے ہمیشہ دور ہیں کہ وہ فائدہ کی وجہ سے آپ کو ضرور نقصان پہنچائے گا۔

- صحيح ابن حبان : ابوالشخ محمد بن حبان [۵۳۵۳]
- الزهد و صفة الزاهدين : ابوحاتم بن بشر بن عامر مروي شافعى [۵۳۶۲]
- أمثال الحديث : ابوالشخ عبد اللہ بن محمد بن جعفر محمد بن حبان اصبهانى [۵۳۶۹]
- العظمة لأبي الشيخ : ابوالشخ عبد اللہ بن محمد بن جعفر محمد بن حبان اصبهانى [۵۳۶۹]
- مشاهير علماء الأمصار : ابوالشخ عبد اللہ بن محمد بن حبان اصبهانى [۵۳۶۹]
- سنن الدارقطنى : ابو الحسن علي بن عردارقطنى [۵۳۸۵]
- حدیث عمر بن احمد : ابوحفص عمر بن شاپین بغدادی [۵۳۸۵]
- قوت القلوب : ابوطالب محمد بن علي کنی [۵۳۸۶]
- العزلة للخطابي : ابوابا هیم محمد بن سليمان خطابی سنتی [۵۳۸۸]
- الإمتاع والمؤانسة : علي بن محمد بن عباس واطئ ابو حیان التوحیدی [۵۳۰۰]
- الصدقة والصديق : علي بن محمد بن عباس واطئ ابو حیان التوحیدی [۵۳۰۰]
- الأربعون في شيوخ الصوفية للملائينی : احمد بن محمد ابوسعید مالینی [۵۳۱۲]
- فوائد تمام : تمام بن محمد بن عبد اللہ حلبي [۵۳۱۲]
- شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعّة للأكائی : ابوالقاسم بن حسن [۵۳۱۸]
- أخبار أصبهان : ابوثیم احمد بن عبد اللہ اصبهانی [۵۳۳۰]
- معرفة الصحابة : ابوثیم احمد بن عبد اللہ اصبهانی [۵۳۳۰]
- تاريخ أصبهان : ابوثیم احمد بن عبد اللہ اصبهانی [۵۳۳۰]
- حلية الأولياء : ابوثیم احمد بن عبد اللہ اصبهانی [۵۳۳۰]
- أمالی ابن بشران : ابوالقاسم عبد الملک بن محمد بن بشران [۵۳۳۲]
- الإعجاز والإيجاز : احمد بن محمد بن ابراهیم ابوالحسن الشعیبی [۵۳۳۲]
- مسند الشهاب القضاعی : ابوعبد اللہ محمد بن سلامہ قضائی شافعی [۵۳۵۳]

☆ بکل سے ہمیشہ دور ہیں کہ وہ اپنے تھوڑے سے نفع کی خاطر آپ کا بہت سا نقشان کر دے گا۔

- حجۃ الوداع : ابو محمد ابن حزم علی ظاہری [۵۳۵۶]
- دلائل النبوة للبيهقي : ابو بکر احمد بن حسین بن علی بنیہقی [۵۳۵۸]
- الاعتقاد للبيهقي : ابو بکر احمد بن حسین بن علی بنیہقی [۵۳۵۸]
- ما ورد في حياة الأنبياء بعد وفاتهم : ابو بکر احمد بن حسین بن علی بنیہقی [۵۳۵۸]
- حياة الأنبياء في قبورهم : ابو بکر احمد بن حسین بن علی بنیہقی [۵۳۵۸]
- فضائل الأوقات : ابو بکر احمد بن حسین بن علی بنیہقی [۵۳۵۸]
- السنن الكبرى للبيهقي : ابو بکر احمد بن حسین بن علی بنیہقی [۵۳۵۸]
- الأربعون الصغرى للبيهقي : ابو بکر احمد بن حسین بن علی بنیہقی [۵۳۵۸]
- معرفة السنن والآثار : ابو بکر احمد بن حسین بن علی بنیہقی [۵۳۵۸]
- شعب الایمان للبيهقي : ابو بکر احمد بن حسین بن علی بنیہقی [۵۳۵۸]
- الزهد الكبير للبيهقي : ابو بکر احمد بن حسین بن علی بنیہقی [۵۳۵۸]
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : ابو بکر احمد خطيب بغدادی [۵۳۶۳]
- اقتضاء العلم العمل للبغدادی : ابو بکر احمد بن علی خطيب بغدادی [۵۳۶۳]
- الكفاية في علم الرواية : ابو بکر احمد بن علی خطيب بغدادی [۵۳۶۳]
- شرف أصحاب الحديث : ابو بکر احمد بن علی خطيب بغدادی [۵۳۶۳]
- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : ابو عمر يوسف بن عبد البر [۵۳۶۳]
- الإنصاف لابن عبد البر : ابو عمر يوسف بن عبد البر [۵۳۶۳]
- الرسالة القشيرية : ابو القاسم عبد الكريم قشيری [۵۳۶۵]
- نشر الدرر في المحاضرات : ابو سعيد منصور بن حسین آبی [۵۳۲۲]
- کشف المحجوب : حضرت داتا کنگ بخشش علی ہجویری [۵۳۶۵]
- مسنند ابراهیم بن ادھم الزاہد : حافظ ابو عبد اللہ بن مندرہ اصمہانی [۵۳۶۵]

☆ بزدل سے ہمیشہ دور ریں کرو مشکل وقت پڑنے پر آپ کو ہلاکت میں چھوڑ کر روپچکر ہو جائے گا۔

- فوائد ابن مندة : حافظ ابو عبد اللہ بن مندہ اصفہانی [۵۳۷۵]
- إكمال الكمال : علي بن ابو القاسم وزیر ابن ماکولا [۵۳۸۷]
- محاضرات الأدباء : ابو القاسم حسین بن محمد راغب اصفہانی [۵۵۰۲]
- إحياء علوم الدين : ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزاتی طوی [۵۵۰۵]
- تفسیر ابوالسعود : ابو محمد حسین بن مسعود بغوی شافعی [۵۵۱۶]
- سراج الملوك : ابو محمد طرطوشی مالکی اندرلی معروف بابن ابی رندقة [۵۵۲۰]
- شرح البخاری ابن بطال : ابو الحکم بن زکریا بن بطال برہانی کوفی اشبيلی [۵۵۲۹]
- ربيع الأبرار : ابو القاسم محمد بن عمرو زمشیری [۵۵۲۸]
- تاريخ مدينة دمشق : علي بن حق دمشقی معروف بابن عساکر [۵۵۴۱]
- المنتظم في تاريخ الأمم : عبدالرحمن بن علي بن جوزی بغدادی [۵۵۹۷]
- صفة الصفوة : عبدالرحمن بن علي بن جوزی بغدادی [۵۵۹۷]
- بر الوالدين : ابو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزی القرشی [۵۵۹۷]
- الأذكياء : ابو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزی القرشی [۵۵۹۷]
- مواعظ ابن الجوزی : ابو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزی القرشی [۵۵۹۷]
- تفسیر رازی : امام فخر الدین محمد بن عمر رازی [۵۶۰۲]
- النهاية في غريب الأثر : محمد الدين مبارک بن محمد جزری ابن اثیر [۵۶۰۲]
- التعاوین في أخبار قزوین : عبد الکریم بن محمد راغب قزوینی [۵۶۲۳]
- التوابین : ابو العباس سیف الدین محمد بن احمد بن قدامة مقدسی حنفی [۵۶۲۳]
- بغية الطلب في تاريخ حلب : کمال الدین ابو حفص ابن عدیم حنفی [۵۶۲۰]
- تفسیر قرطی : ابو عبد اللہ محمد بن احمد ابی بکر قرطی [۵۶۲۱]
- تهذیب الأسماء و اللغات : حافظ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی [۵۶۲۲]

☆ جن لوگوں کو بارڈر پر بڑی جگ لڑنی ہو وہ گلی کی لڑائی نہیں لڑا کرتے۔

- وفيات الأعيان و إنباء أبناء الزمان : ابوالعباس ارثلي ابن خلakan [۵۷۸۱]
- تاريخ الرسل والملوك : احمد بن محمد طبری کی شافعی [۵۶۹۳]
- تهذیب الآثار : احمد بن محمد طبری کی شافعی [۵۶۹۳]
- تفسیر مدارک التنزيل : ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد شافعی [۵۷۱۰]
- لسان العرب : محمد بن مکرم انصاری افریقی مصری [۱۴۷۶]
- تفسیر خازن : ابوالحسن علی بن محمد خازن بن عمر شافعی [۵۷۳۱]
- تفسیر البحر المحيط : اثیر الدین ابوالجیان محمد بن یوسف اندری [۵۷۳۵]
- الكباير : حافظ شمس الدین ابوعبد اللہ بن احمد ذہبی [۵۷۳۸]
- العبر في خبر من غبر : حافظ شمس الدین ابوعبد اللہ بن احمد ذہبی [۵۷۳۸]
- تذكرة الحفاظ : حافظ شمس الدین ابوعبد اللہ بن احمد ذہبی [۵۷۳۸]
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال : حافظ ابوعبد اللہ بن احمد ذہبی [۵۷۳۸]
- تاريخ الإسلام للذهبي : شمس الدین محمد بن احمد ذہبی [۵۷۳۸]
- سیر أعلام النبلاء : حافظ شمس الدین ابوعبد اللہ بن احمد ذہبی [۵۷۳۸]
- من له رواية في الكتب الستة : حافظ شمس الدین ابوعبد اللہ ذہبی [۵۷۳۸]
- الروح : محمد بن ابوبکر شمس الدین مشقی عنبلی معروف بابن قیم جوزیہ [۵۷۵۱]
- اجتماع الجيوش الإسلامية ... : محمد شمس الدین عنبلی ابن قیم جوزیہ [۵۷۵۱]
- مرآة الجنان و عبرة اليقظان : عبد اللہ بن اسعد یافعی یمنی شافعی [۵۷۶۸]
- البداية والنهاية : حافظ عماد الدین ابوالفرداء سمعیل ابن کثیر [۵۷۷۳]
- تفسیر ابن کثیر : حافظ عماد الدین ابوالفرداء سمعیل ابن کثیر [۵۷۷۳]
- النهاية في الفتن والملاحم : حافظ عماد الدین سمعیل ابن کثیر [۵۷۷۳]
- المختصر في أخبار البشر : عماد الدین ابوالفرداء سمعیل ابن کثیر [۵۷۷۳]

☆ علم وہی ہے جو عمل میں آئے؛ ورنہ اضافی بوجھے۔

- ✿ قصص الأنبياء : حافظ عماد الدين ابوالقداء سمعيل ابن كثير [٥٨٧٢]
- ✿ جامع العلوم والحكم : عبد الرحمن ابن رجب ومشقى خبلي [٥٨٩٥]
- ✿ مجمع الزوائد و منبع الفوائد: امام نور الدين علي بن ابي بكر ياقشي [٥٨٠٧]
- ✿ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان : نور الدين ابوالحسن ياشي [٥٨٠٧]
- ✿ حياة الحيوان الكبير : كمال الدين ابوالقادميري مصرى شافعى [٥٨٠٨]
- ✿ الزهر الفائق في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح: ابوالحاج محمد ابن الجوزي [٥٨٣٣]
- ✿ غاية النهاية في طبقات القراء : ابوالجليس الدين محمد ابن الجوزي [٥٨٣٣]
- ✿ معجم ابن المقرئ : اسماعيل بن ابوالبكر بن علي شرجي زبيدي [٥٨٣٧]
- ✿ المستطرف في كل فن مستظرف : ابوالفتح بهاء الدين ابيشبي شافعى [٥٨٥٠]
- ✿ تفسير بحر العلوم : سيد علاء الدين علي سرقندى قرمانى [٥٨٦٠]
- ✿ فتح القدير : محمد بن عبد الواحد كمال الدين حنفى معروف بابن همام [٥٨٦١]
- ✿ السجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ابن اتابكى تغري بردى [٥٨٧٣]
- ✿ الآداب الشرعية : ابوخَمْسَةِ ابراهيم بن محمد رامي صالحى خبلي [٥٨٨٣]
- ✿ نظم الدرر في تناسب الآى والسور : ابراهيم بن عمر بقائى [٥٨٨٥]
- ✿ نزهة المجالس و منتخب النفائس : عبد الرحمن بن عبد السلام صفورى [٥٨٩٣]
- ✿ تفسير در منثور : جلال الدين عبد الرحمن ابو بكر سيوطي [٥٩١١]
- ✿ الحبائـك في أخبار الملائـكـ : جلال الدين عبد الرحمن ابو بكر سيوطي [٥٩١١]
- ✿ الاستعداد للموت و سؤال القبر : زين الدين احمد مليبارى شافعى [٥٩٢٨]
- ✿ المطالب العالية : حافظ شهاب الدين احمد بن ابن حجر عسقلانى كفى [٥٩٤٣]
- ✿ تقريب التهذيب : حافظ شهاب الدين احمد بن ابن حجر عسقلانى كفى [٥٩٤٣]
- ✿ لسان الميزان : شهاب الدين احمد بن حجر عسقلانى كفى [٥٩٤٣]

☆ جس کوہایلے کی چوٹی سر کرتا ہے وہ اپنے جوتوں کی قیمت نہیں گنا کرتا۔

- الزواجر عن اقرار الكبار : شہاب الدین احمد بن محمد بن حجر یعنی مکی [۵۹۷۳]
- کنز العمال : علاء الدین علی مقتی بن حسام الدین ہندی برہانپوری [۵۹۷۵]
- تفسیر السراج المنیر : محمد بن احمد خطیب شریمنی مصری شافعی [۵۹۷۷]
- فیض القدیر : شمس الدین عبدالرؤف مناوی شافعی [۱۰۳۰]
- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : احمد بن غنیم نفراؤی [۱۱۲۵]
- تفسیر روح المعانی : ابوالثنا سید شہاب الدین بن درویش آلوی [۱۲۰]
- البحر المديد : ابوالعباس احمد بن محمد بن مهدی ابن عجیبة طوانی [۱۲۲۳]
- تفسیر فتح القدیر : قاضی ابوعبد اللہ محمد یعنی شوکانی [۱۲۵۰]
- أنسی المطالب : سید محمد بن سید درویش یروتی حوت حنفی [۱۲۶۲]
- تفسیر أضواء البيان : محمد مین بن محمد مقترن شنقبیطی [۱۳۹۳]
- الأعلام : خیر الدین زرکلی [۱۳۹۶]
- المسند الجامع : ابوالفضل سید ابوالمعاطی التوری [۱۴۰۱]
- إعلام الناس بما وقع للبرامكة معبني عباس : محمد دیاب التلیدی [۱۴]
- برقیه محمودیہ فی شرح طریقہ محمدیہ :
- الإبانة الکبری لابن بطة : ابن بطة حنبلی [۱۴]
- تفسیر همیان الزاد إلى دار العباد : سخون بن عثمان وہبی اباضی [۱۴]
- موسوعة أطراط الحديث :
- شرح میارہ :
- جزء ابن الغطیری :
- روضۃ العقلاء و نزہۃ الفضلاء : ابن حبان یعنی [۱۴]
- تعزیۃ المسلم : ابن ہبۃ اللہ [۱۴]

☆ اپنے دشمنوں سے پیار کریں، دوستوں سے تو سب ہی پیار کرتے ہیں۔

- أمالی أبو اسحاق : ابوالحق ابراهیم بن عبد الصمد بن موسی [٥]
 - المقلین من الأمراء والسلاطين : تمام بن محمد دمشقی [٦]
 - اللباب في علوم الكتاب : سراج الدين ابوحفص ابن عادل دمشقی حلبي [٧]
 - معالم القرابة في طالب الحسبة : محمد بن احمد معروف بابن اخوة [٨]
 - إتحاف الخيرة المهرة : [٩]
 - التبوب الموضوعي للأحاديث : [١٠]
 - العاقبة في ذكر الموت : [١١]
-

يقول أبو الرقة محمد افروز القادرى الجرياكوتى - أadam اللہ له سلوك سبيل السنۃ و
الجماعۃ - هذا ما وفقني اللہ تبارک و تعالیٰ وأعانتی عليه من وضع هذا الكتاب الذي دأبّت في
تربيّه و تحقيقه و تحريرجه بكل ما في وسعي و طاقتی و ﴿لَا يَكُلُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَهَا﴾ [طلاق: ٧]
و إنني أسئل اللہ سبحانه و تعالیٰ أن يجعل عملي هذا و جهدي خالصاً لوجهه الكريم و
هدية الى جناب سيدی رسول اللہ العظیم أنجو به من نار الجحیم و ما توفیقی إلا بالله العظیم
عليه توکلت وإليه أئیب . قد بدأت ع مل التالیف والتربیت يوم الأحد ، الثامن وعشرين من
جمادي الأولى عام - ١٤٣١ھ - الموافق شهر مايو - ٢٠٠٩ء - و كان الفراغ منه - بفضل الله
و منته و توفیقه و مuronته - في ليلة يوم السبت ، الخامس من جمادي الآخرة عام - ١٤٣١ من
الهجرة النبویة على صاحبها السلام و التحیة - ، الموافق شهر مايو - ٢٠٠٩ من
میلاد المسيح عليه الصلوٰۃ و التسلیم .

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا

﴿تَمَتْ وَبِالْخَيْرِ عَمَّتْ﴾

BOLON SE HIKMAT PHOTE

جی پوچھیں تو آج ہمیں روحانیت کے مقام پر زیادہ
حس اپنے کی ضرورت ہے؛ کیوں کہ اس سے قلب
و باطن کا نظام مستوار ہوتا ہے اور دنیاے رو جگہ گائی
ہے۔ روحانیت قال سے نہیں حال سے عبارت ہے۔ یہ
علیٰ نظر یہ کہ نام نہیں بلکہ علیٰ تحریر کی چیز ہے اور یہ
تحریر بھی ماڈی نہیں سرا بر ماطی ہے۔ یہ تقریر و ابداع
کے حصی و ماذقی تاروں سے نہیں بلکہ گئی آنفاس کی پاکیزہ
موبوخوں سے پھیلتی ہے۔ یہ لفاظ کے قاب میں نہیں سائی
بلکہ احساس کی گہرائیوں میں اترتی ہے۔ یہ کہنے سننکی
چیز نہیں بلکہ سکھنے اور بر تھے کی چیز ہے۔ اختصار یہ ترکیہ
اللہ، تصفیہ بالصلوٰۃ اور پاکیزگی نفس کا آلوہی انداز اور
وصول الی اللہ کا باطنی و پوشیدہ راز ہے۔
ساماجان باطن میں حضرت مالک بن دینار-رحمہ
الله و رضی عنہ۔ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ہم نے مقدور بھر
کوشش کر کے کتابوں کے ذخیرہ میں مستور حکمت و آگوئی
سے بھر پور آن کے جواہرات کو ایک خاص ترتیب سے
صحاکر پر و قرطاس کر دیا ہے اس امید پر کہ شاید مادی
دنیا کی یہی گیگوں اور اس کی بھوٹی چک دمک کے پیچ آن
کی نیجتوں کا کوئی پارس آپ کے آگیوں دل سے مس
ہو جائے اور پھر اس کے لئے سے آپ بھی بیش قیمت بن
جائیں۔ خدا کرنے ایسا ہی ہو۔

• Distributors •

KAMAL BOOK DEPOT
Madrasa Shamsul Uloom, Ghosi
Distt. Mau (U.P.)
Ph: 09935465182, 09335082776



KHWAJA BOOK DEPOT
419/2, Matia Mahal, Jama Masjid
Delhi-6, Mobile No. +91-9313086318
E-mail: khwajabd@gmail.com